

Ketabton.com



دلایل الخیرات (وظایف روزمره)  
برای مسلمانان عام و خاص



آخند زاده سیف الرحمن پیر ارجی خراسانی



لیسوک ملام حضرت ملام



لیسوک ملام حجب ملام

دلایل الخیرات (وظایف روزمره)  
برای مسلمانان عام و خاص



آخند زاده سیف الرحمن پیر ارجی خراسانی



لیسوک ملام حضرت ملام



لیسوک ملام حجب ملام

رَعِيَايَ سِيِّدِي بِرَفْعِ يَدِي عَائِشَةَ  
 جبل خوب حضرت ابو بکرؓ ته نو راته نه او فرمائیل چه اے عائشہ ضرور  
 لَيْدُ فَنَنْ فِي بَيْتِكَ ثَلَاثَةَ هُمْ خَيْرٌ أَهْلِ  
 به دفن کولے شی ستا به کور کنیے درے داسے سړی چه هغه به بهترین  
 الْأَرْضِ فَلَمَّا تَوَفَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 وی دزمکه به خلقو کنیے، نو کله چه وفات شو رسول الله صلی الله  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ فِي بَيْتِي قَالَ لِي  
 علیه وسلم او دفن کرے شو خما به کور کنیے نو راته او فرمائیل  
 أَبُو بَكْرٍ هَذَا أَوْ أَحَدٌ مِّنْ أَقْبَارِكِ وَهُوَ  
 ابوبکرؓ چه دا هغه یوه سپورمن ده ستا به سپور مو کنیے او دا  
 خَيْرُهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ  
 زیاته بهتره ده به هغو کنیے. رحمت دالله دوی به هغوی باندے او به  
 وَسَلَّمَ كَثِيرًا  
 آل دهغوی او دیر دیر سلام دوی

أَلْحِزْبُ الْأَوَّلُ  
 دا ږو میے حزب دے  
 فَصَلْ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ  
 فصل دے به کیفیت د درود لیکلو کنیے به نبی کریم  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
 صلی الله علیه وسلم باندے  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 شروع کوم دالله په نوم سره چه دیر مهربان دیر رحم کونکے دے  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
 رحمت دالله دوی به سردار او مولی زمونیر محمد باندے  
 وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  
 او به آل دهغوی او به اصحابو دهغوی او سلام  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ  
 اے الله رحمت او لیرے به سردار زمونیر محمد باندے او

اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ

پہ بیبیانو دھغوی او پہ اولاد دھغوی خنگہ چہ تار حمت لیکلے دے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ

سردار او مولا زمونیر ابراهیم باندے او برکت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ

سردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے او دھغوی پہ بیبیانو

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ اِلٰى سَيِّدِنَا

او دھغوی پہ اولاد باندے خنگہ چہ تابرکت لیکلے دے پہ سردار زمونیر

وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

او پہ مولا زمونیر ابراهیم باندے بیشکہ تہ ڈیر ستائیلے شومے لونی والائے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ رحمت او لیجے پہ سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر حضرت

مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ اِلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ

محمد باندے او دھغوی پہ آل باندے خنگہ چہ تار حمت لیکلے دے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ

سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر ابراهیم باندے او برکت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ اِلٰى

سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر حضرت محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

دسردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے خنگہ چہ تابرکت لیکلے دے

عَلَيَّ اِلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ فِي

پہ آل دسردار او مولا زمونیر حضرت ابراهیم باندے پہ

اَلْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ

عالمونو کنے بیشکہ تہ ڈیر ستائیلے شومے اور دلویئے والائے اے اللہ

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ

رحمت او لیجے پہ سردار او مولیٰ زمونیر حضرت محمد باندے او پہ

اِلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

آل دسردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے خنگہ چہ تار حمت لیکلے دے



عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

زمنور سردار ابراهيم باندے او برکت اوليرے په سردار زمنور

مُحَمَّدٍ وَ اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

محمد باندے او په آل د سردار زمنور محمد باندے څنگه چه تارکت ليكلے دے

عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ

زمنور په سردار ابراهيم باندے . بيشكه ته ډير ستايلے شوع

مَجِيْدٌ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او لوني والائے . اے خدايه رحمت او ليرے په سردار زمنور

مُحَمَّدٍ اِل النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا

محمد باندے چه نالوسته نبي دے او په آل د سردار زمنور

مُحَمَّدٍ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے اے الله رحمت اوليرے په سردار زمنور

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ۞

محمد باندے چه ستا بنده دے او ستا رسول دے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او ليرے څمنور په سردار محمد باندے او په

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

آل د سردار زمنور محمد باندے څنگه چه تارحمت كړ دے په سردار زمنور

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ

ابراهيم باندے او په آل د سردار زمنور ابراهيم باندے بيشكه ته

حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ۞ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ډير ستايلے شوع ته دلوني والائے اے الله برکت اوليرے په زمنور په سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او په آل د سردار زمنور محمد باندے څنگه چه تا

بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اِل

برکت ليرے دے په سردار زمنور ابراهيم باندے او په آل

سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

د سردار زمنور ابراهيم باندے بيشكه ته ډير ستايلے شوع او دلوني والائے

اللَّهُمَّ وَتَرْحَمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ای الله اور رحم او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرْحَمْتَ

پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ رحمت کریدے

عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر

اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے ایے الله

وَتَحَنَّنْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

او مہربانی او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَي سَيِّدِنَا

دسردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تامہربانی کرے دہ پہ سردار زمونیر

اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے بیشکہ تہ

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَي

دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے ایے الله او سلام او لیبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كَمَا سَلَّمْتَ عَلَي سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

خنکہ چہ تا سلام لیبرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

دسردار زمونیر ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ایے الله درود اولیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

دسردار زمونیر محمد باندے اورحم او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَي سَيِّدِنَا

او پہ آل دسردار زمونیر محمد باندے او برکت اولیبرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او بہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تا

صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

درو دلیرے دے اور رحمت دنازل کرے دے اوبرکت دلیرے دے بہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي

ابراہیم باندے او بہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے بہ

الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

عالمو کنہے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوئے، دلوی خاوندئے، اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ

درو داو لیرے بہ سردار زمونیر محمد باندے خوک چہ نبی دے او بہ بیبانو

أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ

دھغوی چہ دمومانو میندے دی او بہ او لاددھغوی باندے او بہ اهل بیتو

بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

دھغوی خنکہ چہ تا درود دلیرے دے بہ سردار زمونیر ابراہیم باندے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ

بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے دلوی خاوندئے اے اللہ، برکت او لیرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بہ سردار زمونیر محمد باندے او بہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمد باندے خنکہ چہ دبرکت لیرے دے بہ سردار زمونیر ابراہیم باندے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ دَاخِي الْمَدْحُوِّ

بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے، دلوی خاوندئے، اے اللہ ذمکو

وَبَارِئِ الْمَسْمُوكَاتِ وَجَبَّارِ الْقُلُوبِ

فرش غورونکیہ او پیدا کونکیہ داو چتو آسمانو نو او مجبورونکیہ دزرونو

عَلَىٰ فِطْرَتِهَا شَقِيهَا وَسَعِيدِهَا اجْعَلْ

بہ پیدا کولو دھغوی بدبختہ دھغوی او نیک بختہ دھغوی او گر خوم

شَرَّ آيَفَ صَلَوَاتِكَ وَتَوَافِي بَرَكَاتِكَ

عزتمند رحمتونہ خپل او زیاتیدونکی برکتونہ خپل

وَرَأْفَةً تَحَنُّنِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

او لوتے مہربانی خیلے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ

چہ ستابندہ اور رسول دے کوم چہ پرانستونکے دے دھغہ خیز چہ بندوو

وَالخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعَلِّينَ الْحَقِّ

او ختمونکے دھغہ خیز چہ تبرشوں دے او ظاہرونکے دحق دے

بِالْحَقِّ وَالِدَامِغِ لِحَبِشَاتِ الْبَاطِلِ

پہ راستی سرہ او ماتونکے دے دباطلو لبیکرو خنگہ چہ راپورتہ

كَمَا حُمِلَ فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ

کھے شوی ووپس تیار شو ستاپہ حکم باندے ستا فرمان برداری ته

مُسْتَوْفِرًا فِي مَرْضَاتِكَ وَأَعْيَا لَوْحِيكَ

تلوار کونکے پہ ستا رضامندی کنہی خیال ساتونکے دے ستا دوحی

حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَا ضِيًّا عَلَى نِقَازِ أَمْرِكَ

حفاظت کونکے دے دلو ط ستابو تلونکے دے ستا حکم پہ نافذ کولو

حَتَّىٰ أَوْرَىٰ قَبَسًا لِقَائِهِ لَأَيُّ اللَّهِ تَصِلُ

تردے پورے چہ رویشانہ نے کرہ دنور شغلہ دپارہ درنا خستونکی دالله نعمتہ

بِأَهْلِهِ أَسْبَابُهُ بِهِ هُدِيَّتِ الْقُلُوبُ

پوخائے کوی اهل خیل خیلوسیبونوسرہ دھغوی پہ ذریعہ ہدایت کرے شوے

بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وَأَبْهَجَ

دے زبونوتہ روسو ددوبیدلونہ پہ فتنو او گناہونو کنہے او زینت نے ور کرو

مَوْضِعَاتِ الْأَعْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ

خلیدونکو نشانونوتہ او حکمونہ خلونکو

وَمُنِيرَاتِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ

او دا سلام رویشانہ کونکو خیزونو لرہ پس ہغہ امین دے

الْمَأْمُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْرُومِ

ستا امن ور کھے شوے اونکھیان دے ستا دہت علم

وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبِعَيْتِكَ نِعْمَةٌ

او گواہ ستا دے پہ روح دجزا او ستا رالیبرے شوے نعمت دے



وَرَسُولِكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً ۝ اللَّهُمَّ

اور رسول ستادمے پہ حق سرہ سراسر رحمت دے امے اللہ فراخ کرے

افسَحْ لَهُ فِي عَدْنِكَ وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتٍ

ہفہ دہارہ خائے دہفہ پہ خیل جنت کنیے اوبدلہ ور کرے ہفہ لہ ددو چندو

الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهْتَابٍ لَّهُ غَيْرِ

نیکیانو دخیل فضل نہ چہ خوشگوارہ وی ہغوی د پارہ بغیر

مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ فَوْزِ تَوَائِيكِ الْمَحْلُولِ

ذکدورت نہ سرہ دکامیابی دثواب ستاکوم چہ نازل کرے شوے دے

وَجَزِيلٍ عَطَائِكَ الْمَعْلُولِ ۝ اللَّهُمَّ

او دلونے ور کرے ستا کومہ چہ پرلہ پسے راتلونکے دہ۔ امے اللہ

أَعْلَىٰ عَلَىٰ بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءً وَآكْرَمَ

اوجت کرے پہ آبادی دخلقو آبادی دہغوی او عزتمندہ کرے تہکانہ

مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنَزْلَهُ وَأَتَيْمَ لَهُ

دہغوی خیل خان سرہ او میل مستیاد ہغوی او پورہ کرے ہغوی دہارہ

نُورَهُ وَاجْزِهِ مِنْ ابْتِعَاثِكَ لَهُ

نور دہغوی اوبدلہ ور کرے ہغوی تہ پہ خیلور اپورتہ کولوسرہ ہغوی لہ

مَقْبُولِ الْمَقَالَةِ

مقبول والے د گواہی او خوبش والے ذخیرو

ذَامِنِّطِقِ عَدْلِ وَخُطَّةِ قَصْلِ وَ

کومہ چہ د انصاف گویائی دہ او فیصلہ دشان والا او

بُرْهَانٍ عَظِيمٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ

لونے حجت والا پئے۔ بیشکہ اللہ تعالیٰ او فرشتے دہفہ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

رحمت لیبری پہ نبی باندمے۔ امے ایمان والو

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ لِيَبْئِكَ

درو دا لیبری پہ ہفہ باندمے او سلام پراو لیبری دیر سلام۔ زہ ستا خدمت تہ

اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ

حاضریم۔ امے اللہ خمار بہ او مدد کوم (ستا ددین) رحمتونہ د اللہ

الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

احسان کونکي مهربان او ذ مقربو فرشتو

وَالنَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

او د پيغمبرانو او صديقانو او شهيدانو

وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ

او نیک بختانو او هغه چه پاکی بيانوي ستا دهر خيزنه

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے پروردگاره د عالمونو په سردار زمونږ محمد

ابن عبد الله خاتمة النبيين وسيد

خونے د عبدالله چه آخري پيغمبر دے او سردار

المرسلين واما المتيقنين ورسول

د رسولانو دے او امام دهر هيزگارانو او رسول

رب العالمين الشاهد لبشير الداعي

د رب العلمين دے. گواهي ورکونکے 'زيرے ورکونکے رابلونکے

إلَيْكَ يَا ذَنبِكَ السِّرَاحِ الْمُنِيرِ وَعَلَيْهِ

ستا طرف ته ستا په حکم سره چراغ روښانه او په هغوی د

السَّلَامِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ

سلام وي. اے الله نازل کرے رحمتونه خپل

وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

او برکتونه خپل او مهرباني خپله په سردار د مرسلانو

وَأَمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّنَ

او په امام دهر هيزگارانو او په ختمونکي د پيغمبرانو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

په سردار زمونږ محمد باندے چه ستا بنده او رسول دے

إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

امام د نيکي دے او راښکونکي د نيکي دے او رسول

الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا

د رحمت دے. اے الله پا سوه هغوی لره مقام

مَحْمُودًا يَغِيْطُهُ فِيْهِ الْاَوْوَانُ وَ

محمود ته چه پسخیدل ورته او کړي په هغه کښه مخکني او

الْاٰخِرُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

روستوني. اے الله رحمت او لېرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

محمدبانده او په آل د سردار زمونږ محمدبانده څنگه چه در رحمت ليكله دے

عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

په سردار زمونږ ابراهيم بانده بيشكه ته ډير ستايله شوم دلوي خاوند ئے

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے الله برکت او لېرې په سردار زمونږ محمد بانده او په

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى

آل د سردار زمونږ محمد بانده څنگه چه در برکت ليكله دے په

سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

سردار زمونږ ابراهيم بانده بيشكه ته ډير ستايله شوم دلوي خاوند ئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے الله رحمت او لېرې په سردار زمونږ محمدبانده او په آل د هغوی او په

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَ

اصحابو د هغوی او په اولاد د هغوی او په بیانو د هغوی او په بچو

ذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَ

د هغوی او په اهل بیتو د هغوی او په سخر کښی د هغوی او په مددگار

اَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهِ وَاُمَّتِهٖ وَ

انو د هغوی او په پیروي کونکو د هغوی او په محبت کونکو د هغوی او په

عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ ۝

امت د هغوی او په مونږه بانده سره د هغوی ټولو. اے د ټولو نه زیات رحم کونکېه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ

اے الله رحمت او لېرې په سردار زمونږ محمد بانده په شمار د هغه چا

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

چه درود ئے وربانده ليكله دے او رحمت او کړه په سردار زمونږه

چَه دَرُودٌ نَزَّ وَرَبَّانَدُ لِيَكْلَهٗ دَعَا اَوْ رَحْمَتٌ اَوْ كَرَمٌ

په سردار زمونږه

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ

محمد باندے پہ شمار دہفہ چاچہ درود نے نہ دے لیکلے پہ ہغوی باندے او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا

رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے خنکے چہ تا حکم کرے دے مونیرتہ

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ

پہ درود لیکلو پہ ہفہ باندے اور رحمت اولیرے پہ ہغوی باندے خنکے چہ

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تہ خوبنومے درد لیرل پہ ہغوی باندے . اے اللہ رحمت اولیرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝

خنکے چہ تا حکم کرے دے مونیرتہ چہ درود اولیرو پہ ہفہ باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ۝

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکے چہ ہفہ لائق د دے دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکے چہ تہ خوبنومے اور اضی کیرے ہرے

لَهُ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دپارہ دہفہ . اے اللہ اے ربہ د سردار زمونیر محمد

وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او د آل د سردار زمونیر محمد رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِ

محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے او ور کرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالدَّرَجَةِ وَالْوَسِيلَةِ

زمونیر سردار محمد تہ درجہ او وسیلہ

فِي الْجَنَّةِ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

به جنت کنی. ای الله! ای پروردگاره د سردار زمونیر محمد

وَإِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِجْزِ سَيِّدِنَا

او ذ آل د سردار زمونیر محمد، بدله ور کرے سردار زمونیر

مُحَمَّدًا أَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ

محمد صلی الله علیه وسلم ته د کومے چه هغه

أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لائق وی. ای الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندے او په اهل بیت

۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دهغوی. ای الله دردو او لیرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

محمد باندے او په آل د سردار زمونیر محمد باندے او په

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ

آل د سردار زمونیر محمد باندے تردے پورے چه پاتے نشی

الصَّلَاةِ شَيْءٌ ۝ وَارْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

ذ درود نه هیخ شے. او رحم او کرے په سردار زمونیر محمد باندے

وَإِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندے تردے پورے چه پاتے نشی

الرَّحْمَةِ شَيْءٌ ۝ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ذ رحمت نه هیخ شے. او برکت او لیرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندے او په آل د سردار زمونیر محمد باندے

حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الْبَرَكَاتِ شَيْءٌ ۝ وَسَلِّمْ

تردے پورے چه پاتے نشی ذ برکت نه هیخ شے او سلام او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

په سردار زمونیر محمد باندے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ السَّلَامِ شَيْءٌ ○

محمدؐ باندے تردے ہورے چہ ہاتے نشی د سلام نہ ہیخ شے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے پہ

الْأَوَّلِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اولنو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي الْآخِرِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہ آخرنو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي النَّبِيِّينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہ نبیانو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي الْمُرْسَلِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ رسولانو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ فِي لَمَّا الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○

محمدؐ باندے پہ فرشتو کنے ترورخ د جزا ہورے

اللَّهُمَّ اعُوْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلَى وَسِيْلَةٍ

اے اللہ! ورکھے زمونیر سردار محمدؐ تہ وسیلہ

وَالْفَضِيْلَةَ وَالشَّرَفَ وَالذَّرَجَةَ الْكَبِيْرَةَ

او فضیلت او بزرگی او لویہ درجہ اے اللہ!

اللَّهُمَّ اِنِّيْ اٰمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بیشکہ ما ایمان واؤرے دے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے حالانکہ

لَمَّا اَرَاهُ فَلَا تَحْرِمْنِيْ فِيْ لِحْنَانِ رُوْبَيْتِهِ

ماہغہ نہ دے لیدلے نوماحروم مہ کرے پہ جنت کنے دھغوی د لیدلہ نہ

وَارْتُقِنِيْ صُحْبَتَهُ وَتَوَقَّفِنِيْ عَلَى مِلَّتِهِ

اورا نصیب کرے ملکر تیا دھغوی او وفات مے کرے پہ ملت دھغہ

وَأَسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا

اورا باندے او سکوں دھغوی د حوض نہ سکل سیرابونکی

سَأِيْغًا هَيْئًا لَا نَظْمًا بَعْدَهُ اَبَدًا اِنَّكَ

دھری نہ تیریلونکی خوشگوار چہ مونیر تری نشو دھغہ نہ پس ہیجرے بیشکہ تہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اللَّهُمَّ أَيْلِغْ رُوحَ

پہ ہر خیز باندے قدرت لرونکے نے اے اللہ اور سوسے زمونیر دسردار محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنِّي تَجِيَّةً وَسَلَامًا ۝

روح ته خما د طرفه دعا او سلام

اللَّهُمَّ وَكَمَا أَمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ او خنگه چه ما ایمان راڑرے دے پہ سردار زمونیر محمد او

لَمَّارَةٌ فَلَا تَحْرِمْنِي فِي لِحْنَانِ رُؤْيَتِهِ ۝

حال داچه لیدلے مے نہ دے پس مامحروم مه کرے پہ جنت کنیے دھغوی

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ددیدارنہ اے اللہ قبول کرے شفاعت د سردار زمونیر محمد چه

الْكُبْرَىٰ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَآتِهِ

لونی شفاعت دے او اوچتہ کرے دھغوی لویہ درجه او ور کرے ورته

سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ كَمَا أَتَيْتَ

مراد دھغوی پہ آخرت او پہ دنیا کنیے خنگه چه تاور کرے دے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَىٰ ۝ اللَّهُمَّ

زمونیر سردار ابراهیم ته او زمونیر سردار موسیٰ ته. اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

دسردار زمونیر محمد باندے خنگه چه تارحمت لیرے دے پہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ

ابراہیم باندے او پہ آل دسردار زمونیر ابراهیم باندے او

بَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

برکت او لیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سردار زمونیر محمد باندے خنگه چه تابرکت لیرے دے پہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم باندے اور پہ آل دسردار زمونیر ابراهیم باندے بیشک ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دیرستائیلے شوے نے دبر رکھی خاوند نے۔ اے اللہ درود اولیہے او سلام

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ

او برکت پہ سردار زمونیر محمد باندے چہ ستا نبی دے اوستا رسول

رَسُولِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلِكَ

دے۔ او پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے چہ ستا خلیل دے او ستا

وَصَفِيَّكَ وَسَيِّدِنَا مُوسٰى كَلِيْمِكَ وَ

خوبش کرے شوے دے او پہ سردار زمونیر موسیٰ باندے چہ ستا کلیم دے او

نَجِيْبِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا عِيْسٰى رُوحِكَ وَ

ستاہمراز دے، او پہ سردار زمونیر عیسیٰ باندے چہ ستا روح دے او

كَلِمَتِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ مَلٰئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ

ستا کلمہ دے، او پہ تہولو ملائکہ ستا او پہ رسولا نو ستا

وَ اَنْبِيَايِكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ

او پہ نبیانو ستا او پہ غورہ گسانو د مخلوق ستا او پہ

اَصْفِيَايِكَ وَخَاصَّتِكَ وَاَوْلِيَايِكَ مِنْ

خوبش کرے شوے ستا او پہ خاصا نو ستا او پہ دوستانو ستا کوم چہ

اَهْلِ اَرْضِكَ وَسَمٰوٰتِكَ ۝ وَصَلِّ اَللّٰهُ

او سیدونکی دی ستادزمکے او ستا د آسمان، او رحمت د اللہ دوی

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِهِ وَحُضْنِ

پہ سردار زمونیر، محمد باندے پہ شمیر دمخلوق دہغه او پہ رضا کیدلو

نَفْسِهِ وَزِيْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادِ كَلِمَاتِهِ وَ

ذذات دہغه، او پہ وزن دعرش دہغه او پہ مقدار دسیاهی دکلمو دہغه

كَمَا هُوَ اَهْلُهُ وَكُلَّمَا ذَكَرَهُ الذُّكْرُوْنَ

او خنکے چہ ہغه لائق د دے دے، او کلمہ چہ یا ذوی نے یا ذونکی

وَعَقَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَعَلٰى اَهْلِ

او کلمہ چہ غفلت کوی د ذکر دہغه نہ غفلت کونکی او پہ اهل بیعو

بَيْتِهِ وَعِثْرَتِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

دہغوی باندے او پہ اولاد دہغوی چہ پاکان دی او سلام برے اولیہے دیر دیر۔



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ارحمت او ليرى زمونير به سردار محمد باندي او به

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ

بييانو دهغه او به اولاد دهغه او به ټولو نبيانو

وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْمُقَرَّبِينَ وَ

او رسولانو او به ملائكو او به مقربين او بالله

جَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عَدَدَ مَا أَمْطَرَتْ

به ټولو نيكانو بندگانو به شمار دهغه شاخكو چه ورولي دي

السَّمَاءُ مِنْذُ بَنِيَّتِهَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اسمان كله نه چه تادم پيدا كړم دى اورحمت اوليرى به سردار زمونير

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْذُ

محمد باندي به شمار دهغه شينكو چه زرغون كړي دي زمكه ذكله راسه

دَحْوَتِهَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

چه تا داغور ولى ده اورحمت اوليرى به سردار زمونير محمد باندي

الْجُودِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا ○ وَ

به شمار دهغه ستور چه په آسمان كنى دي خكه چه تادا شمارلي دي او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتْ

رحمت اوليرى به سردار زمونير محمد باندي به شمار دهغه چه ساكله اخلي

الْأَسْرَاحُ مِنْذُ خَلْقَتِهَا ○ وَصَلِّ عَلَى

ټول ساه لرونكي چه كله راسه تادا پيدا كړي دي اورحمت اوليرى به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا

سردار زمونير محمد باندي به شمار دهغه مخلوق چه تا پيدا كړم دى او هغه

تَخَلَّقَ وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَضَاعَ

چه ته به نه پيدا كړم او هغه چه چاپيره دى ورباندي علم ستاو دوچند

ذَلِكَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ عَدَدَ خَلْقِكَ

ددم ارحمت اوليرى به هغوى باندي به شمار دمخلوق خپل

وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ

اوپه رضا كيدلو دذات خپل او په وزن دعرش خپل او په مقدار د سياهي

كَلِمَاتِكَ وَمَبْلَغَ عِلْمِكَ وَآيَاتِكَ ○

دکلماتو سٽا او په انداز ۷ د علم سٽا او دنښو سٽا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً تَفُوقُ وَ

اے الله رحمت او ليرے په هغوی داسے رحمت چه او جت او

تَفْضُلُ صَلَوةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ

غوره وي د درود ليکونکو درود نه په هغوی باندے د ټول

أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ ○

مخلوق نه څنگه چه سٽا فضيلت دے په ټول مخلوق سٽا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً

اے الله رحمت او ليرے په هغوی باندے داسے رحمت چه همیشه وي او

الدَّوَامَ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ مُتَّصِلَةً

جاري اوسي څومره پورے چه همیشه او جاري دي شپے او ورځے متصل وي

الدَّوَامَ لَا انْقِصَاءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ عَلَى

همیشه والي سره چه نه ئے پوره والے وي او نه ئے پر يکيدل وي په

مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ عَدَّةً كُلِّ وَابِلٍ وَكُلِّ

جاري والي د شپو او د ورځو په شمار دهر باران او د پرنے اے الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَسَيِّدِنَا

رحمت او ليرے په سردار زموږ محمد باندے چه ستاني دے او په سردار زموږ نبي

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَعَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ

ابراهيم چه سٽا خليل دے او په ټولو پيغمبرانو خپلو او خاصانو خپلو

مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَاوَاتِكَ عَدَّةً خَلْقِكَ

سٽا د زمکے او سټو نگونه او د اسمان او سټو نگونه په شمار د مخلوق سٽا

وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَوِدَادِ

او په رضامندی د ذات سٽا او په وزن د عرش سٽا او په سياهی

كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ وَزِينَةِ جَمِيعِ

دکلماتو سٽا او په منتهی د علم سٽا او په وزن د ټولو

مَخْلُوقَاتِكَ صَلَوةً مُكْرَّرَةً أَبَدًا عَدَدَ مَا

مخلوقانو سٽا داسے رحمت چه پرله پسے وي همیشه په شمار دهغے چه

أَحْضِرْ عِلْمَكَ وَمِلَّءْ مَا أَحْضَرْتَهُ لَكَ

کیر کړي دي علم ستا او په ذکر کوالي دهغه چه کیر کړي دي علم ستا

وَأَضْعَافَ مَا أَحْضَرْتَهُ لَكَ صَلَاةً تَزِيدُ

اوپه دو چند دهغه چه کیر کړي دي علم ستا داسه رحمت چه زیات وي

وَتَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلَاةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ

اوپورته وي اوزیات شوم وي په درود د درود دویونکو په هغوی باندی

مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَا

د ټولو مخلوقاتو نه څنگه چه ستا او چتوالی دے په

جَمِيعِ خَلْقِكَ ثُمَّ تَدْعُوا بِهَذَا الدُّعَاءِ

ټول مخلوق ستا. بیا ته او غواړه دے دعا لره

فَأِنَّهُ مَرْجُوُّ الْإِجَابَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

څکه چه دهغه د قبول کوالی امید کیدل شي کچرے او غواړي الله تعالی

بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پس د درود لیر لونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندی

وَسَلِّمْ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَزِمَ مِلَّةَ

اے الله او کړخوے ما دهغه چا نه چه لازم نے نیولے دے ملت

نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

د نبی ستا چه زمونږه سردار محمد صلی الله علیه وسلم دے او اوچته

وَسَلِّمْ وَعَظَّمَ حُرْمَتَهُ وَأَعَزَّ كَلِمَتَهُ وَ

نے لرلے ده مرتبه دهغوی او عزتمندہ نے لرلے ده کلمه دهغوی او خیال

حَفِظَ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ وَنَصَرَ حَزْبَهُ وَ

نے ساتلے دے دلوظا دهغوی او دوعلمے دهغوی او امداد نے کړے دے ددلے

دَعْوَتَهُ وَكَثَّرْتَ تَابِعِيهِ وَفَرَّقْتَهِ وَوَأَتَى

دهغوی او دعوت دهغوی اوزیات کړي نے دي پیروي کونکي دهغوی

زَمْرَتَهُ وَلَمْ يُخَالَفْ سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ ۝

اوپوره کړے نے ده ډله دهغوی او مخالفت نے نه دے کړے دهغوی دلارے او

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِسْتِسْكَاءَ بِسُنَّتِهِ

طریقے نه اے الله زه سوال کومه تانه دمنگلو لگولو نه په طریقے دهغوی

وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْاِنْجِرَافِ عَمَّا جَاءَ

او پناه غوارم پنا سره چه واژرم دهغه خه نه کوم چه هغوی راوړي

بِهِ ۰ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

دي. اے الله زه سوال کوم تانه دهغه بهتر دخیزونو کوم چه

سَأَلْتُكَ مِنْهُ سَيِّدًا نَامُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ

غوبنتي دي تانه سردار زمونير محمد چه ستاني دے او ستا

رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعُوذُ بِكَ

رسول دے صلي الله عليه وسلم او پناه غوارم پنا سره

مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ سَيِّدًا مُحَمَّدٌ

دشره دهغه بدی نه چه ستاپناه غوبنتي ده دهغه نه سردار زمونير محمد

نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۰

چه ستا نبي او رسول دے صلي الله عليه وسلم.

اَللّٰهُمَّ اَعِصِمْنِيْ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَعَاقِبَتِي

اے الله بچ کرے ما دفتنو دشرنه او محفوظ مے او لرے

مِنْ جَمِيعِ الْبَحْنِ وَاَصْلِحْ مِنِّيْ مَا ظَهَرَ

دټولو محتنونونه او درست کرے خمانه کوم چه ظاهر دي

وَمَا بَطَّنَ وَتَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ

او کوم چه پټ دي او پاک کرے زره خماد کينه نه او د حسد نه

وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تَبَاعَةَ لِاحِدٍ ۰ اَللّٰهُمَّ

اومه اچوم په ما باندے تاوان دهيجا. اے الله

اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْاِخْتِيارَ بِاِحْسَنِ مَا تَعْلَمُ

زه سوال کوم تا نه دتوفيق دهغه بهتر والي چه تا ته معلوم دے

وَالْتَرْكَ لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْئَلُكَ التَّكْفُلَ

او دپهرينو دلو دهغه بدو کومے چه تاته معلوم دے دي او غوارم تانه بهر وسه

بِالرِّزْقِ وَالرُّهْدَ فِي الْكِفَافِ وَالْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ

په رزق سره او زهد په خرج کولو کينه او وتل په ظاهر بدلو

مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَاَقْلَحَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ

دهرے شهبے نه او فتح مندي په حق امرسره په هر

حُجَّةٍ وَالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ

حجت کنیے او عدل پہ غصے او پہ رضا کنیے

وَالسَّلِيمَ لِمَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءُ وَالْاِقْتِصَادَ

او قبول دہنے چہ جاری شوم دے ورباندے حکم ستا او میانہ روی

فِي لِقَقْرٍ وَالْغِنَى وَالْتَّوَاضِعَ فِي الْقَوْلِ الْفِعْلَ

پہ غریبی او مالدارئ کنیے او عاجزی کول پہ قول او فعل کنیے

وَالصِّدْقَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ ۝ اَللّٰهُمَّ

او درست والے (ریشتوالے) پہ سمہ خندہ او پہ توفہ کنیے۔ اے اللہ بیشکہ

اِنَّ لِيْ ذُنُوْبًا فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَذُنُوْبًا

خماخہ گناہونہ دی کوم چہ خما او ستا ترمینخہ دی اوخہ گناہونہ دی

فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ مَا

کوم چہ خما او ستا د مخلوق ترمینخہ دی۔ اے اللہ کوم

كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاعْفِرْهُ وَمَا كَانَ مِنْهَا

گناہونہ چہ راتہ ستاشوی دی نوہغہ راتہ اوبخنیے او کوم چہ راتہ شوی دی

لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ وَاعْنِنِيْ بِفَضْلِكَ

ستادمخلوق نوپورتہ نے کرے خمانہ۔ اویے پرواہ مے کرے پہ خچل فضل سرہ

اِنَّكَ وَاَسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ تَوَرَّ بِالْعِلْمِ

بیشکہ تہ دلونے مغفرت والا ئے۔ اے اللہ رویشانہ کرے پہ علم سرہ

قَلْبِيْ ۝ وَاسْتَعْمَلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِيْ ۝

زرہ خما او استعمال کرے پہ طاعت خچل کنیے بدن خما

وَخَلِّصْ مِنْ الْفِتَنِ سِرِّيْ ۝ وَاَشْغَلْ

او خلاص کرے د فتنونہ باطن خما او مشغول کرے پہ

بِالْاِعْتِبَارِ فِكْرِيْ ۝ وَرَقِنِيْ شَرَّ وَاَوْسِ

عبرت سرہ فکر خما او ما اوسا تے دوسوسو

الشَّيْطَانِ ۝ وَاجْرِنِيْ مِنْهُ يَا رَحْمٰنُ

دشیطان نہ او پناہ را کرے دہغہ نہ اے ڈیر مہربانہ

حَتّٰى لَا يَكُوْنُ لَهُ عَلَيَّ سُلْطٰنٌ ۝

تردے پورے چہ او نشی ہغہ لره غلبہ پہ ما باندے

الْحِزْبُ الثَّانِي فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ

دویم حزب ذہبی دورخ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ

اے اللہ زہ غوارم تا نہ ہفہ خیرونہ چہ تا تہ معلوم دی او

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ

پناہ غوارم پناسرہ دہفہ شرونونہ چہ تا تہ معلوم دی او تانہ بخنبہ غوارم

مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ

دہرے ہفہ گناہ چہ تا تہ معلومہ دہ بیشکہ تہ پوہیرے او مونیر نہ پوہیرو

وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي

اوتہ ڈیر پوہیدونکے نی پہ غیبو باندمے اے اللہ او ساتے ما

مِنْ رَفَاتِي هَذَا أَوْ أَحْدَاقِ لِقْتِنِ تَطَاوُلِ

ددمے زمانے نہ او ذرا کبیرولو د فتنونہ او د ظلم کولو

أَهْلِ الْجُرَاةِ عَلَيَّ وَأَسْتَضَعُ فِيمَ إِيَّايَ

دزبرہ ورائونہ پہ ما باندمے او د کمزوری گنبرلو دہفوی مالرہ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْكَ فِي عِيَاذٍ مَنِيْعٍ وَ

اے اللہ او کمر خومے مادخپل طرف نہ پہ مضبوطہ پناہ کنہے او پہ مضبوط

حَرِّ نَارٍ حَصِيْنٍ مِّنْ جَمِيْعِ خَلْقِكَ حَتَّىٰ

قلعہ کنہے دتبول مخلوق خپل نہ تردمے پورے چہ راؤزشومے راتہ مرگ

تُبَلِّغَنِي أَجَلِي مُعَافِيًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

پہ دمے حال کنہے چہ عافیت راکرمے شومے وی اے اللہ رحمت او لبرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زومونیر محمد باندمے او پہ آل دسردار زومونیر محمد باندمے پہ شمار

عَدَدٍ مِّنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

دہفہ چاچہ درود نے لیکلے دمے پہ ہفوی باندمے اور حمت اولبرے

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ

زومونیر پہ سردار محمد باندمے او پہ آل دسردار زومونیر محمد باندمے پہ شمار دہفہ

مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

چاچہ درود نے نہ دمے لیکلے پہ ہفوی باندمے اور حمت اولبرے زومونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

به سردار محمد باندے او په آل د سردار زموږ محمد باندے څنگه چه

تَتَّبِعِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

لا تقي دي رحمت ليكل په هغوی باندے او رحمت اوليرے په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او په آل د سردار زموږ محمد باندے څنگه دے

تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

واجب دي درود ليرل په هغوی باندے او درود اوليرے په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او په آل د سردار زموږ محمد باندے څنگه چه

أَمْرٌ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ

ت احکم کرے دے د درود ليکلو په هغوی باندے او رحمت اوليرے په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زموږ محمد باندے او په آل د سردار زموږ محمد باندے

الَّذِي نُورُهُ مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ وَأَشْرَقَ

هغه هستي چه نور دهغوی اصل د ټولو نورو نودے او روښانه شول

بِشُعَاعِ سِرِّهِ الْأَسْرَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

سره د خليدو دراز دهغوی ټول رازونه اے الله رحمت اوليرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

په سردار زموږ محمد باندے او په آل د سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَبْرَارِ

محمد باندے او په اهل بيتو دهغوی نيكو کارانو

اجْمَعِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ټولو باندے اے الله رحمت اوليرے په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِلِهِم بِحَرَائِرِكَ وَمَعْدِنِ

محمد باندے او په آل دهغوی کوم چه درياب دے دانوارو ستا او کان دے

أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ مَجَّتِكَ وَعُرْوَسِ

د رازونو ستا او زبه ده د حجت ستا او خلعي

مَمْلُكَتِكَ وَإِمَامَ حَضْرَتِكَ وَخَاتِمَ

د مملکت ستا او امام د دربار ستا او ختمونکے د نبیانو ستا

أَنْبِيَائِكَ صَلَوَةً تَدُومُ يَدًا وَإِمَامًا وَ

داسے رحمت چه همیشه وی به همیشه والی ستا او باقی پاتے شی

تَبْقَى بِبَقَائِكَ صَلَوَةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ

سره دباقی والی ستا داسے رحمت چه راضی کری تالره اوراضی کرے ته

وَتُرْضِي بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○

هغه لره او ته راضی شه په هغه سره زمونږ نه اے د جهان پالونکیه

اللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَرَبَّ

اے الله پروردگار د حجل او د حرم او پروردگار

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

د مشعر حرام (مزدلفه) او پروردگار د حرمت والا کور

وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ أَيْلَاحِ لِسَيِّدِنَا

او پروردگار د رکن او مقام ابراهیم او رسوم زمونږ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا السَّلَامِ ○ اللَّهُمَّ

او زمونږ مولا محمد ته زمونږ د طرفه سلام. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

رحمت اولیږے زمونږ په سردار او مولا محمد باندے چه سردار دے

الْأُولَى وَالْآخِرِينَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

دمخکو او روستنو خلقو. اے الله رحمت او لیږے

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ

زمونږ په سردار او مولا محمد باندے په هر یو

وَقْتٍ وَحِينٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

وخت او زمانه کنیے. اے الله رحمت او لیږے زمونږ آسردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَا أَعْلَى إِلَى

او زمونږ په مولا محمد باندے په ډله داوچو فرشتو کنیے تر

يَوْمِ الدِّينِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورځ د بدله پورے. اے الله رحمت او لیږے زمونږ په سردار



وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرِثَ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ○

او زموئير مولا محمد باندے تردے پورے چه وارث شے ته دزمکے او

هغه شه چه ددغے د پاسه دي او ته بهتر نے په ټولو وارثانو کنه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اے الله رحمت اولیرے زموئیر په سردار محمد باندے چه نبي دے

نالوستے دے او په آل د سردار زموئیر محمد باندے څنگه چه

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ○ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

تا رحمت لیرے دے زموئیر په سردار ابراهیم باندے بیشکه ته

ستائیلے شوعے نے دلویں خاوند نے او برکت او لیرے په سردار زموئیر

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ بَانْدَمے چه نبي دے نالوستے څنگه چه تا برکت لیکلے دے په

محمد باندے چه نبي دے نالوستے څنگه چه تا برکت لیکلے دے په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ○

سردار زموئیر ابراهیم باندے بیشکه ستائیلے شوعے . دلویں خاوند نے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت اولیرے په سردار زموئیر محمد باندے او په آل د سردار

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

زموئیر محمد باندے په شمار دهغه چه گھیره اچولے ده په هغه باندے

عِلْمِكَ وَجَرَى بِهِ قَلَمُكَ وَسَبَقَتْ

علم ستا او جاري شوعے دے ورباندے قلم ستا او ورباندے شوعے ده

بِهِ مَشِيئَتُكَ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُكَ

در باندے اراده ستا او چه درود لیکلے ورباندے ملائکو ستا داسے

صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِكَ بِأَقْبَى بِفَضْلِكَ

رحمت چه همیشه وي سره دهمیشه والي ستا باقي وي په فضل ستا

وَإِحْسَانِكَ إِلَى أَبَدٍ أَبَدًا ○

او په احسان ستا تر همیشه همیشه پورے چه نه وي

او په احسان ستا تر همیشه همیشه پورے چه نه وي

نَهَايَةَ لَا بَدِيَّتِهِمْ وَلَا فَنَاءَ لِدَيْهِمْ وَمُؤَمِّتِهِمْ

انتها دهمیشه والی دهنے اونہ وی فنا کیدل دهنے دهمیشه والی دبارہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ آل د سردار

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

زمونیر محمد باندمے پہ شمار دهنے چہ گھیرہ اجولے پہ ہنے باندمے

عِلْمِكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدَتْ

علم ستا او ضبط کبری دی کتاب ستا او گواہی ور کھے دہ پہ

بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَأَرْضٌ عَنْ أَصْحَابِهِ

ہنہ سرہ ملائکو ستا او راضی شے دهنوی دا صحابونہ اورحم

وَأَرْحَمَ أُمَّتَهُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

او کرے دهنوی پہ امت باندمے بیشکہ تہ دیر ستانیلے شومے نے د بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

والانی اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ

آل د سردار زمونیر محمد باندمے او پہ تولو اصحابو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

د سردار زمونیر محمد باندمے اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندمے او پہ آل و سردار زمونیر محمد باندمے خنکہ چہ

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

تا رحمت لیکلے دے زمونیر پہ سردار ابراہیم باندمے برکت او لیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمد باندمے خنکہ چہ تا برکت لیکلے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندمے

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ

او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندمے پہ عالمونو کنہے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بِخُشُوعٍ

بیشکھ تہ ذہیر ستانیلے شوے دلویں خاوند نے۔ اے اللہ بہ عاجزی

الْقَلْبِ عِنْدَ السُّجُودِ لَكَ يَا سَيِّدِي

دزہ سرہ تا تہ دسجدو کولو وخت کنے اے خماسردارہ

بِغَيْرِ دَانِكَارَنَهٗ يَا اللَّهُ يَا جَلِيلُ فَلَا

بغیر دانکارنہ او ستا بہ مدد سرہ اے اللہ اے لویں والا پس ہیخ یو

شَيْءٌ يَدَايِنِكَ فِي غَلِيظِ الْعَهْودِ وَيَكْرِسِيكَ

غیز نہ نزدی کیری ستا مضبوط لوظونوتہ او بہ کرسی ستا

الْمُكَلَّلِ بِالنُّورِ إِلَى عَرْشِكَ الْعَظِيمِ الْمَجِيدِ

کومہ چہ جہراؤ شوے دہ بہ نور سرہ عرش عظیم او جت تہ۔ او بہ

وَمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقًّا قَبْلَ أَنْ

وسیلہ دہفہ غیز چہ ستاد عرش لاندے دے بہ رشتیا سرہ مخکنے ددے

تَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَصَوْتِ الرَّعْدِ لَكَ إِذْ

نہ چہ پیدا ذکر ل اسمانو نہ او بہ آواز د غور خو سرہ تا دہارہ چہ

كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَزَلْ قَطُّ الِهَا عَرَفْتَ

تہ وے او مثل دنہ وو ہمیشہ ہیخوک معبود پیژندے شوے نے تہ

بِالتَّوْحِيدِ فَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُحِبِّينَ

سرہ د توحید نہ پس کرے ما دوستی کولو والا

الْمَحْبُوبِينَ الْمُقَرَّبِينَ الْعَارِفِينَ الْعَاشِقِينَ

او دوست کرے شوئے دنزدیکانونہ دعارفانونہ دعاشقانونہ

لَكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

تا د ہارہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا دُودٌ ۝ اللَّهُمَّ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کونکیہ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

رحمت اولیرے زمونیرہ سردار او مولیٰ محمد باندمے بہ شمار دہفہ

مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

چہ چاپیرہ شوے دے بہ ہفے باندمے علم ستا۔ اے اللہ رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ

په سردار زمونیر محمد بانده او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه

كِتَابِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

چه ضبط کره دے هغه لره کتاب ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا نَفَذْتَ بِهِ

زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه جاری شوه دے

قُدْرَتِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

وربانده قدرت ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصَّصْتَهُ

په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه خاص کره دے هغه لره

إِرَادَتِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اراده ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او په

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ

مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه متوجه شوید هغه ته

أَمْرِكَ وَتَهْيِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

امر ستا او تهی ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او مولی

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَسَّعَهُ سَمْعُكَ ۞

زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه فراخواله کره دے وربانده اور بدلوستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

ستا اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده

عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ بَصَرُكَ ۞ اللَّهُمَّ

په شمار دهغه چه احاطه کره ده وربانده لیدلوستا اے الله رحمت

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

نازل کره په سردار زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه

ذَكَرَهُ الذُّكْرُونَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چه یاد کره دے هغه لره یادونکو. اے الله رحمت نازل کره په سردار

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنِّ

زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه غافل شوي دي دهغه

ذَكَرَهُ الْغُفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دذکر نہ غفلت کونکی۔ اے اللہ رحمت اولیہیے زمونیر پہ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ ۝

او مولیٰ محمدؐ باندے پہ شمار دشاخکو د بارانونو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے

عَدَدَ أَوْزاقِ الْأَشْجَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دانو د پانوپہ شمار۔ اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ الْفَقَارِ ۝

سردار او مولا محمدؐ باندے دخنگل دخناوروپہ شمار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے

عَدَدَ دَوَابِّ الْبِحَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د دریاب دخناوروپہ شمار۔ اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ الْبِحَارِ ۝

سردار او مولا محمدؐ باندے د دریابونو د اوبوپہ شمار اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے پہ شمار

عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ

دھغہ خیزونوچہ شبے ورباندے تیارہ کرے دہ اوخلیدلے دہ ورباندے

النَّهَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

ورخ۔ اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا

مُحَمَّدٍ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ۝ اللَّهُمَّ

محمدؐ باندے صبا او بیگاہ۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے پہ شمار

الرِّمَالِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

دشکو(دذرو) اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ

او مولا محمد بانده په شمار د بنخو او د سرو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے الله رحمت او ليرے زمونږ په سردار او مولا محمد بانده

رِضَاءَ نَفْسِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

په اندازه درضاد ذات ستا. اے الله رحمت او ليرے زمونږ په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ

او مولا محمد بانده په اندازه د سپاهي د کلماتو ستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے الله رحمت او ليرے زمونږ په سردار او مولا محمد بانده

مِلَّ سَمَوَاتِكَ وَأَرْضِكَ اللَّهُمَّ

په د کوالي د آسمانونو او د زمکې ستا. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِينَةً

رحمت او ليرے زمونږ په سردار او مولا محمد بانده په وزن

عَرْشِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

د عرش ستا. اے الله رحمت او ليرے زمونږ په سردار او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَخْلُوقَاتِكَ اللَّهُمَّ

مولا محمد بانده په شمار د مخلوقا تو ستا. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ

رحمت او ليرے زمونږ په سردار او مولا محمد بانده غوره

صَلَوَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ

رحمتو نه خپل. اے الله رحمت او ليرے د رحمت والا پيغمبر بانده

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ

اے الله رحمت او ليرے زمونږ د امت په شفاعت کونکي بانده اے الله

صَلِّ عَلَى كَاشِفِ الْغَمِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

رحمت او ليرے د تکليفونو لړ کونکي بانده. اے الله رحمت

عَلَى مُجِبِّ الظُّلْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او ليرے په رنډا کونکي د تيار بانده. اے الله رحمت او ليرے په

مَوْلَى التَّعَمَّةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَوْلٰى

صاحب ذنعت باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ

الرَّحْمَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ

رحمت باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دھغه حوض

الْحَوْضِ لَمُرُوْدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

چہ تہول اُمت بہ پرے تیریری۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ

صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

صاحب ذ مقام محمود باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے

عَلٰى صَاحِبِ الْوِآءِ الْمَعْقُوْدِ ۝ اَللّٰهُمَّ

پہ صاحب ذ جنلمے ودرولے شومے باندے۔ اے اللہ رحمت

صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ لِمَكَانِ الْمَشْهُوْدِ ۝

اولیبرے پہ صاحب ذ مکان چہ ورتہ حاضر کرے شومے ووهغه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَمِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ هغه ذات چہ موصوف شویلمے پہ کرم

وَالْجُوْدِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ فِى

اوسخاوت سره۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ هغه هستی باندے چہ هغه پہ

السَّمٰوٰتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفِى الْاَرْضِ

اسمان کنبے زمونیر سردار محمود دے۔ او پہ زمکه کنبی زمونیر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ

سردار محمد دے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دمهر نبوت

الشَّامَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْعِلْمِ

باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ نخبے باندے اے اللہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَامَةِ ۝

رحمت او لیبرے پہ هغه ذات چہ موصوف شومے دے پہ بزرگی سره اے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْمَخْصُوْصِ بِالرَّعَايَةِ ۝

اللہ رحمت او لیبرے پہ هغه ذات چہ خاص کرے شویلمے پہ سرداری سره

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَانَ تَظْلُهُ الْعِمَامَةُ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ هغه ذات چہ سورے بہ ورباندے کولو ورنخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ يَرَى مَنْ

اے اللہ رحمت او لیجے پہ ہفتہ ذات چہ لیدل بہ نے ہفتہ شوک چہ ترینہ بہ

خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ ۝ اللَّهُمَّ

روستوو و خنگہ چہ بہ برز لیدل ہفتہ شوک چہ ترینہ مخکینے بہ ووائے اللہ رحمت

صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ الْمَشْفُوعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

اولیجے پہ شفاعت کونکی او شفاعت قبول کرے شوی باندے پہ ورخ دقیامت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الصَّرَاةِ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب دعا جز والی اوزاری باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الشَّفَلَةِ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ذ شفاعت باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَوْسَيْلَةَ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ذ وسیلے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَفْزَيْلَةَ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب دفضیلے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب داوجے مرتبے والا باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَهْرَاوَةِ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب دھمسا باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّعْلِينِ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ذ نعلینو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْحُجَّةِ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب دحجت باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَبْرُهَانَ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ددلیل باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ السُّلْطَانِ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ذ غلبے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّاجِ ۝

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ذ تاج باندے





اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَيْعْرَاجٍ ○

اے اللہ رحمت او لبرے پہ صاحب د معراج باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لُقْضِيْبٍ ○

اے اللہ رحمت او لبرے پہ صاحب د شمشیر باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ النَّجِيْبِ ○

اے اللہ رحمت او لبرے پہ سور د اصيلے اوبنے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ لُبْرَاقٍ ○

اے اللہ رحمت او لبرے پہ سور د بُراق باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطَّبَاقِ ○

اے اللہ رحمت او لبرے پہ تیریلونکی د او طبقو د آسمان باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيْعِ فِي جَمِيْعِ الْاَنَامِ ○

اے اللہ رحمت او لبرے پہ شفاعت کونکی دتول مخلوق باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ

اے اللہ رحمت او لبرے پہ ہفہ چاچہ تسبیح ویلے وہ پہ ورغوی دہفہ کنے

الطَّعَامِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بَكَى

لمعام. اے اللہ رحمت او لبرے پہ ہفہ چاچہ ڈرلی وو

إِلَيْهِ الْجَذْعُ وَحَنَّ لِفِرَاقِهِ ○ اللَّهُمَّ

ہفہ تہ د کجورے تنے او ڈرائے کرے دہ پہ فراق دہفہ. اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الْفَلَاقَةِ ○

رحمت او لبرے پہ ہفہ چاچہ وسیلہ نیولے دہ پہ ہفہ سرہ دخنکل مارغانو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ

اے اللہ رحمت او لبرے پہ ہفہ چاچہ تسبیح ویلے وہ پہ ورغوی دہفہ

الْحِصَاةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَشَفَّعَ

کنے کورت کانرو. اے اللہ رحمت او لبرے پہ ہفہ چاچہ سفارش لہ راغلہ

إِلَيْهِ الطَّبِيُّ بِأَفْصَحِ الْكَلَامِ ○ اللَّهُمَّ

ورته ہوسے پہ فصیح کلام سرہ. اے اللہ رحمت او لبرے

صَلِّ عَلَى مَنْ كَلَّمَهُ الصَّبُّ فِي مَجْلِسِهِ

پہ ہفہ چاچہ خبرے ورسرہ کرے دی سمسارے پہ مجلس دہفہ کنے

مَعَ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

سرہ دخیلو بزرگانو. اے اللہ رحمت او لیجے

عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بہ زبیر و رکونکی او یرونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ

السَّراجِ الْمُنِيرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

دیوے رویشانہ باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ ہفہ ہستی

شَكَرَ إِلَيْهِ الْبَعِيرُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چہ اویں ورتہ شکایت کرے وو. اے اللہ رحمت او لیجے بہ ہفہ چا

مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ الْمَاءِ

چہ روانے شوے وے د مینخ دکوتو دھغوی نہ اوجے

التَّيْرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى طَاهِرٍ مُطَهَّرٍ

صفا. اے اللہ رحمت او لیجے بہ پاک او پاک شوے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورٍ لَا تَوَارِي ○ اللَّهُمَّ

اے اللہ رحمت او لیجے بہ نورونو بہ نور باندے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ انشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ ○ اللَّهُمَّ

رحمت او لیجے بہ ہفہ ہستی چہ دوہ تگرے شوے وہ ہفہ دبارہ سپورمی

صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ الْمُطِيبِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ رحمت او لیجے بہ خوشبودار پاکیزہ باندے. اے اللہ رحمت او

عَلَى الرَّسُولِ الْمُقَرَّبِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

لیجے بہ رسول مقرب باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ

الفَجْرِ السَّاطِعِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ

صبا رنرا خورونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ ستوری

الثَّاقِبِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ○

خلیدونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ دستاویز محکم باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَذِيرِ أَهْلِ الْأَرْضِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے بہ یرونکی دزمکہ اوسیلونکو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ يَوْمَ الْعَرْشِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے بہ شفاعت کونکی دورخ د قیامت باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّاقِي لِلنَّاسِ مِنْ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ شگونکی پہ خلقو باندمے ذ

الْحَوْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

حوض نہ. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذجھنہی

لِوَاءِ الْحَمْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُشَمَّرِ

دحمد باندمے. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ خیزونکی دلستوری

عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دکوشش ذ ست نہ. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ عمل کونکی

الْمُسْتَعْمِلِ فِي مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الْجَهْدِ

ستاپہ رضامندی طلب کولوکنے پہ دیر کوشش سرہاے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ خَاتَمِ

رحمت او لیبرے پہ نبی نبوت ختمونکی باندمے. اے اللہ رحمت او لیبرے

عَلَى الرَّسُولِ خَاتَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى

پہ رسول نبوت ختمونکی باندمے. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ مصطفیٰ

الْقَائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ أَبِي الْقَاسِمِ

قائم باندمے. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ خپل رسول ابو القاسم باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْإِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دنخینو باندمے. اے اللہ رحمت او لیبرے

عَلَى صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ اللَّهُمَّ

پہ صاحب ذ لار خود لو باندمے. اے اللہ رحمت

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ إِشَارَاتِ اللَّهُمَّ

او لیبرے پہ صاحب داشاراتو باندمے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِكْرَامَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیبرے پہ صاحب کراماتو باندمے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِعَلَامَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ علاماتو باندمے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ دلیلونو باندمے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمُعْجَزَاتِ اَللّٰهُمَّ  
 رَحْمَتِ او ليرے د معجزاتو په خاوند باندے. اے الله  
 صَلِّ عَلَى صَاحِبِ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ  
 رَحْمَتِ او ليرے د خرق عادت کارونو په صاحب باندے  
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ سَلَمَتٍ عَلَيَّ  
 اے الله رحمت او ليرے په هغه چاچه سلام کرے دے ورته  
 اَلْاَشْجَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ سَجْدَتِ  
 کانرو. اے الله رحمت او ليرے په هغه چاچه سجده کرے ده  
 بَيْنَ يَدَيْهِ اَلْاَشْجَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ  
 دهغه په وړاندے اونو. اے الله رحمت او ليرے  
 عَلَيَّ مَنْ تَقَيَّقَتْ مِنْ نُورِهِ اَلْاَزْهَارُ  
 په هغه چا وتلي دي دنور دهغه نه کلنے اے الله رحمت  
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ  
 او ليرے په هغه چا باندے چه پخے شومے دي دهغه په برکت سره

الْتِمَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ اخْضَرَّتْ  
 مسوے. اے الله رحمت او ليرے په هغه چاچه شنه شومے دي  
 مِنْ بَقِيَّةِ وَضُوئِهِ اَلْاَشْجَارِ اَللّٰهُمَّ  
 دهغه د اودس نه پاتے اوبو سره اونو. اے الله  
 صَلِّ عَلَيَّ مِنْ قَاضَتْ مِنْ نُورِهِ  
 رحمت او ليرے په هغه چاچه ظاهر شوي دي دهغه دنور نه  
 جَمِيْعِ الْاَنْوَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ  
 ټول انوار. اے الله رحمت او ليرے په هغه چا  
 مِنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ تَحْتَ الْاَوْزَارِ  
 چه په هغه باندے درود ليرلو سره رږيرې گناھونه  
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ  
 اے الله رحمت او ليرے په هغه چا باندے درود دليکلو سره  
 تِنَالِ مَنَارِ الْاَبْرَارِ اَللّٰهُمَّ  
 حاصليرې مرتبے دنيکاتو. اے الله

صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُرْحَمُ

رحمت اولیبرے پہ ہفہ چاہاندچہ پہ ہفہ باندے درود لیکلوسرہ رحم

الْكَبَارُ وَالصَّغَارُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

کولے شی پہ مشرانو او کشرانو باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہفہ

عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَّمُ فِي هَذِهِ

چاہاندے چہ پہ ہفہ باندے درود لیکلوسرہ نعمتونہ حاصلیری مونیرتہ

الدَّارِ وَفِي تِلْكَ الدَّارِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ دے جہان کنے ہم او پہ ہفہ جہان کنے ہم. اے اللہ رحمت اولیبرے

عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَنَالُ رَحْمَةً

پہ ہفہ چاہاندے چہ پہ ہفہ باندے درود لیکلوسرہ رسیبری رحمت

الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَنُصُورِ

د غالب بخینونکی اللہ. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ مدد کرے شوی

الْمُؤَيَّدِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ

تائید کرے شوی باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ غورہ کرے شوی

الْمُسَجَّدِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

عزت ور کرے شوی باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے زمونیر پہ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او مولی محمد باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہفہ

مَنْ كَانَ إِذَا مَشَى فِي الْبَرِّ الْأَقْفَرِ

چاہاندے چہ کلہ بہ روان وو پہ او چو میدانونو کنے

تَعَلَّقَتْ الْوُحُوشُ بِأَذْيَالِهِ ○ اللَّهُمَّ

نواختل بہ وحشی خنارود ہغوی لمنو سرہ. اے اللہ رحمت اولیبرے

صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

پہ ہغوی باندے او ہغوی پہ آل او اصحابو باندے او سلام اولیبرے دیردیر

تَسْلِيمًا ○ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

سلام. او تبول تعریفونہ خاص اللہ دہارہ دی چہ دتبولو عالمونو بالونکے دے



# إِبْتِدَاءُ الرَّبْعِ الثَّانِي

دویم ربع شروع

أَحْمَدُ لِلَّهِ عَلَى حَلِيمِهِ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَلَى

تبول تعریفونہ اللہ لہ دی پہ حلم دھغہ پس د علم دھغہ او پہ

عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

عفوے دھغہ پس د قدرت دھغہ۔ اے اللہ زہ پناہ نیسم

بِكَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ ۝ وَمِنَ الذُّلِّ

پہ تاسرہ دمحتاجی نہ مکرستا طرفہ۔ او ذلیل والی نہ

إِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا مِنْكَ ۝ وَ

مکر ستا طرفہ او د ویرے نا مکر دتا نہ۔ او

أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُورًا ۝ أَوْ أَغْشَى

پناہ غوارم پہ تاسرہ چہ اووایم دروغ خیرہ یازتکاب او کرم

فُجُورًا ۝ أَوْ أَكُونَ بِكَ مَغْرُورًا ۝ وَ

ذبدو کارونو یا شمه زہ پتا سرہ مغرور او

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَعُضَالِ

پناہ غوارم پہ تاسرہ د خوشالیدلو د دشمنانونہ او د سختی

الذَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَزَوَالِ النِّعْمَةِ وَ

بیماری نہ او دامیلندہ موندلونہ او د نعمت د زوال نہ او

فَجَاءَةِ النِّقْمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ناسانی مصیت د اے اللہ رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ

محمد بانندے او سلام اولیرے پہ ہغہ بانندے او بدلہ ور کرے ہغوی تہ زمونیر نہ

أَهْلُهُ حَبِيبِكَ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کومہ چہ لائقہ دہ ہغہ سرہ ستاحیوب دے (درے خل دلواہی) اے اللہ رحمت اولیرے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا

زمونیر پہ سردار ابراہیم بانندے او سلام پرے اولیرے او بدلہ ور کرے ہغوی تہ زمونیر نہ

مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيلِكَ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

کومہ چہ لائقہ دہ ہغوی سرہ۔ ستاخلیل دے (درے خل) اے اللہ رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زمونیر پہ سردار محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے

كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى

خنکے چه ددرو دلکے دے اور رحمت دلکے دے او برکت دلکے دے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

زمونیر پہ سردار ابراهیم باندے پہ تو لو عالمو کنے بیشکے ته ستائے

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَى

شوعے او دلوئی والائے . به شمار دمخلوق خیل او به رضامندی ذات

نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَوِدَادَ كَلِمَاتِكَ

خیل او به برابر وزن دعرش خیل . او به مقدار دسیاهی دکلماتو خیلو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ درود او لیرے زمونیر آ سردار محمد باندے به شمار

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دهغه چاچه درودے لیکلے دے به هغه باندے . اے اللہ درود او لیرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

زمونیر پہ سردار محمد باندے به شمار دهغه چاچه درودے نه دے لیکلے به هغه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

باندے اے اللہ درود او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے به شمار دهغه

مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

چه درود لیکلے شوعے دے به هغه باندے . اے اللہ درود او لیرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ أضعافَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ

محمد باندے دو چند دهغه چه درود لیکلے شوعے دے به هغه باندے . اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ

درود او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے خنکے چه هغه ددے اهل دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ درود او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے خنکے

تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ ۝

ته خوبنوعے او راضی کیرے دهغه نه

الْحَزْبُ الثَّلَاثُ  
مخلورم حزب دچار شنبه دورخه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
اے اللہ رحمت او لیرے پہ روح د سردار زمونیرل چه محمد دے

فِي الْأَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ  
پہ ارواحانو کنبے او پہ بدن دھغوی پہ بدنونو کنبے

وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
اوپه قبر دھغوی پہ قبرونو کنبے اوپه آل دھغوی اوپه اصحابو دھغوی

وَسَلِّمْ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
اوسلام پرے اولیرے اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذُّكْرُونَ ۝ اللَّهُمَّ  
باندمے كلہ چه یا ذوی هغه لره یا ذونکي . اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ  
رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے . هر کلہ چه غفلت کوي

عَنْ ذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ  
دیاد دھغه نه غفلت کونکي . اے اللہ رحمت اولیرے

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ  
اوسلام اولیرے او برکت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے چه نبی دے

الرَّمِيِّ وَأَزْوَاجَهُ أَهْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ  
آمی دے او دھغوی پہ بیبیانو باندمے چه د مسلمانانو میندمے دی

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ صَلَوةً وَسَلَامًا  
اودھغوی پہ اولاد باندمے او دھغوی پہ اهل بیتو باندمے داسے درود او سلام

لَا يُحْصَى عَدَدُهُمَا وَلَا يُقْطَعُ مَدَدُهُمَا ۝  
چه نشي پوره کیدمے شمار دھغه اونشي پریکیدمے زیاتوالے دھغه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ  
اے اللہ رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے په شمار

مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ  
دھغه چه احاطه پرے کرے وی علم ستا او محفوظ کرے وی کتاب ستا



دلائل الخیرت ۱۶۶ الحزب الثالث

صَلَاةٌ تَكُونُ لَكَ رِضَةً وَرِحْمَةً أَدَاءً

داسے درود چہ شی تادپارہ راضی کیدل اوشی دحق دھغہ دپارہ ادا کیدل

وَأَعْطَاهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَاللَّحِجَّةَ

او ورکھے ورلہ وسیلہ اوفضیلت او درجہ

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثَهُ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ

او چتہ اوڑے لیبے ہغہ مقام محمود تہ چہ تانے

الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرُهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

ورسره وعدہ کرے دہ اوبدلہ ورکھے ورلہ زمونیر دطرفہ دکومے چہ

وَعَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

ہغہ لائق دے او بہ تولو پیغمبرانو اورونو دھغوی

الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

او بہ صدیقانو او شہیدانو او نیک بختانو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ

اے اللہ رحمت اولیبے زمونیر بہ سردار محمد باندے اوراکوڑے کرے

الحزب الثالث ۱۶۴ دلائل الخیرت

الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ

داسے منزل تہ چہ مقرب وی بہ ورخ دقیامت. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ تَوَجَّهْ

رحمت اولیبے زمونیر بہ سردار محمد باندے. اے اللہ عطا کرے ہغوی تہ

بِتَاجِ الْعِزِّ وَالرِّضَا وَالْكَرَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ

تاج دعزت او رضامندی او عزتمندی. اے اللہ

أَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ

ورکھے زمونیر سردار محمد تہ غورہ دھغے نہ چہ سوال کرے دے ہغوی

لِنَفْسِهِ وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ

دخپل خان دپارہ او ورکھے زمونیر سردار محمد تہ غورہ دھغہ نہ

مَا سَأَلَكَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَأَعْطِ

چہ تانہ سوال کرے دے یوتن د مخلوق ستانہ او ورکھے

لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ

زمونیر سردار محمد تہ غورہ دھغے نہ چہ تانہ نے سوال شوے دے

لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

هغوی دباره دقیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولییرے زمونیر به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا آدَمَ وَسَيِّدِنَا

سردار محمد باندے اوز مونیر به سردار آدم باندے اوز مونیر به سردار

نُوحٍ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَى

نوح باندے اوز مونیر به سردار ابراهیم باندے اوز مونیر به سردار موسی باندے

وَسَيِّدِنَا عِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

اوز مونیر به سردار عیسی باندے او کوم چه دھغوی په مینخ کنے دی پیغمبران

وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

اور سولان رحمتونه د اللہ دی اوسلامونه دھغه دوی به هغوی

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

تولو باندے۔ درے خل د اوائی۔ اے اللہ درود اولیرے به

عَلَى آيِنَا سَيِّدِنَا آدَمَ وَأُمَّنَا سَيِّدَتِنَا

پلارز مونیر به سردار آدم باندے اوز مونیر به مور اوز مونیر به سردار

حَوَاءَ صَلَاةِ مَلَائِكَتِكَ وَأَعْظَمَ مَا مِنْ

حوا بی بی باندے درود د ملائکو او ور کرے دوارو له درضا مندی نه

الرِّضْوَانِ حَتَّى تُرَضِّيَهُمَا وَأَجْزِيَهُمَا اللَّهُمَّ

تردے پورے چه راضی کرے دوارو لره اوبدله ور کرے دوارو له اے اللہ

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَبَاوَأُمَّاعَنَ وَ

غوره دھغے نه چه تابدله ور کرے ده په هغے سره پلار اومور له دھغوی

لَدَيْهِمَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دبجو دطرفنه اوز مونیر به سردار میکائیل باندے اوسے زمونیر به سردار

جَبْرِيْلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيْلَ وَسَيِّدِنَا

جبرائیل باندے۔ اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر به سردار

إِسْرَافِيْلَ وَسَيِّدِنَا عِزْرَائِيْلَ وَحَمَلَةَ

اسرافیل باندے اوز مونیر به سردار عزرائیل باندے او به او چتونکو

الْعَرْشِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ

د عرش باندے او په تولو فرشتو او مقربینو باندے

وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَواتُ

او به تولو نبيان او مرسلانو باندے. رحمتو نه دالله

اللَّهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثَلَاثًا ۝

او سلامونه دهغه دپه هغوی تولو باندے وي (دے کرت دے وواتي)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ

اے الله رحمت اوليبرے زمونير په سردار محمد باندے په شمار دهغه

مَا عَلِمْتَ وَمِمَّا مَا عَلِمْتَ وَزِنَةَ مَا

چه تا ته معلوم دي او په ډكوالي دهغه چه تا ته معلوم دي او

عَلِمْتَ وَمِمَّا أَدَكَلِمَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ

په وزن دهغه چه تاته معلوم دي او په مقدار دسياهی دكلماتو ستا. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً مَوْصُولَةً

رحمت اوليبرے زمونير په سردار محمد باندے داسے رحمت چه يو خانے

بِالْمَزِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

شوعے وي زياتوالي سره. اے الله رحمت اوليبرے زمونير په سردار

مُحَمَّدٍ صَلَوةً لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا إِلَّا بِإِذْنِ وَلَا

محمد باندے داسے رحمت چه نه كت كيري ابدالا با د پورے او نه فنا

تَنْبِيْدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

كيري. اے الله رحمت او ليبرے زمونير په سردار محمد باندے ستا

صَلَاةِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هغه رحمت چه تاور باندے ليكلے دے او سلام اوليبرے زمونير په

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامِكَ الَّذِي

سردار محمد باندے ستا هغه سلام كوم چه تاليكلے دے په هغوی باندے

سَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

اوبدله ورله وركړے زمونير دطرفنه د كومے چه هغه اهل دے اے الله رحمت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

او ليبرے زمونير په سردار محمد باندے داسے رحمت چه راضي كړي

تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَىٰ بِهَا عَسَا

تالره او ته راضي كړے هغه لره او راضي شے ته دهغه په وجه زمونير نه

مَا هُوَ أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او جزاورد کرے زمونیر دظرفہ دکومے چہ ہفہ اهل دے اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ

مُحَمَّدٍ بِخِرَانِ نَوَارِكِ وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكِ

سردار محمداںلے شوک چہ دریاب دے دنواروستا اور معدن دے درازونوستا

وَلِسَانِ مَجْمَعِكَ وَعُرْوَسِ مَمْلَكَتِكَ

او ژبہ ده د حجت ستا او خلمے دے د مملکت ستا

وَأَمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَ

اوامام دے د دربار ستا او نقس دے د ملک ستا او

خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ

خزانے دی درحمت ستا او لاره ده د شریعت ستا

الْمُتَلَدِّذِ بِتَوْحِيدِكَ إِنْسَانَ عَيْنِ

لذت موندونکے دے د توحید ستا کاکے ده دستر گو

الْوَجُودِ وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنِ

دموجوداتو او سبب دے پہ هر موجود کینے سترگه ده

أَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ

داوچت مخلوق ستا ورائدے کیدونکے دے ستاد نور پہ زبر اسره داسے

ضِيَائِكَ صَلَوةً تَدُومٌ يَدِ وَأَمِكَ وَ

رحمت چہ همیشه اوسے ستا پہ همیشه والی سره اوباقی پاتے وی

تَبْقَى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ عِلْمِكَ

ستا پہ باقی والی سره چہ نه وی انتها هے لره سواذعلم ستانه داسے

صَلَوةً تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضِي بِهَا

رحمت چہ تراضی کرے اوتہ نے راضی کرے اوراضی شے پہ هے سره

عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

زمونیر نه اے د مخلوقاتو پالونکیه اے اللہ رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دھے چہ پہ علم دالله

اللَّهِ صَلَوةً دَائِمَةً يَدِ وَأَمِ مُلْكِ اللَّهِ

کینے دی داسے رحمت چہ همیشه وی پہ همیشه والی ذملک دالله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

أصَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا

إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَةَ نَفْسِكَ وَزِينَةَ

عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَعَدَدَ مَا

دَعَرَشَ خَيْلٌ أَوْ بِه مَقْدَارُ دَسِيَاهِي دَكَلِمَاتُو خَيْلُو أَوْ بِه شِمَارُ دَهْفِي

رحمت لبرے دے زمونیر به سردار ابراهیم باندے اوبرکت او لبرے

محمد باندے خنگه چه تا برکت لبرے دے به سردار زمونیر

ابراهیم باندے به علمونو کنیے بیشکه ته ډیر ستائیلے شوم ډبر رگی

والانے به شمار د مخلوق خیل او به رضا والی د ذات خیل او به وزن

د عرش خیل او به مقدار د سیاهی د کلماتو خیلو او به شمار دهغه

ذَكَرَكَ بِه خَلْقِكَ فِيمَا مَضَى وَعَدَدَ مَا هُمْ

ذَكَرُونَكَ بِه فِيمَا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ

شَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ

مِّنَ السَّاعَاتِ وَشَجْرٍ وَنَفْسٍ وَطَرَفَةٍ

وَلَمَحَّةٍ مِّنَ الْآبِدِ إِلَى الْآبِدِ وَأَبَادِ

الدُّنْيَا وَأَبَادِ الْآخِرَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

لَا يَنْقُطُ أَوَّلُهُ وَلَا يَنْقُذُ آخِرُهُ ○

چه یاد کرے دے تالره مخلوق ستا به تیره شومے زمانه کنیے او به شمار

دهغه چه هغوی ذکر کونکی ستا دی به باقی وخت کنیے به هر کال کنیے او

به هره میاشت کنیے او به لره جمعه کنیے او به هره ورخ اوشه کنیے او به

هری گهری کنیے دکهر ونه او دخوشویی رسیدلونه او دساه اخستلونه

او دستر گوز پوزلونه او به مقدار دنظر کولو د زمانے ابتدانه د زمانے آخره پورے

او دابتداد زمانے د دنیا نه آخره زمانے د آخرت پورے او زیادت

د دے نه چه نه منقطع شی اول دهغه او نه فنا شی آخر دهغه

او دابتداد زمانے د دنیا نه آخره زمانے د آخرت پورے او زیادت

لا یمنقطع اوله ولا یمنقذ اخره

د دے نه چه نه منقطع شی اول دهغه او نه فنا شی آخر دهغه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰى

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے پہ قدر

قَدْرٍ رَحْمَتِكَ فِيْهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

د محبت سرہ ہفہ سرہ۔ اے اللہ رحمت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰى قَدْرٍ رِعْنَابَتِكَ فِيْهِ ۝

سردار زمونیر محمدؐ باندے پہ قدر دعنائت سرہ ہفہ سرہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقَّ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے لائق

قَدْرِهِ وَوَقْدَارِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

دقدر دھفہ او دمقدار۔ اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ

سردار محمدؐ باندے داسے رحمت چہ نجات را کرے مونیر تہ پہ ہفہ سرہ

جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا

دہولو ویرو او آفتونونہ اوپورہ کرے تہ مونیر دہارہ

بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا

دھفہ پہ وجہ تول حاجتونہ اوچہ پاککرے تہ مونیر لہ پہ ہفہ سرہ

مِنْ جَمِيْعِ السِّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلٰى

دہولو بدیانونہ اوچہ پورتہ کرے تہ مونیر پہ ہفہ سرہ پہ اعلیٰ

الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَا الْغَايَاتِ

درجوسرہ او چہ اور سوے مونیر پہ ہفہ سرہ آخری نہایتونہ

مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِيْ الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ

د تولو نیکو نہ پہ ژوند کنے ہم او روسو

السَّمَاوَاتِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دمرگ نہ ہم۔ اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ صَلٰوةً الرِّضَىٰ وَارْضَ عَنِ

محمدؐ باندے داسے رحمت چہ درضا باعث وی او راضی شے د

اَصْحَابِهِ رِضَاءَ الرِّضَىٰ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اصحابو دھفوی نہ درضامندی پہ رضا سرہ۔ اے اللہ رحمت او لیجے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِدَخْلِكَ

په سردار زموڼيز محمد باندې چه ښخکښې نه دې مخلوق دپاره نور دهغوی

نُورُهُ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ

اور رحمت دې عالمونو دپاره ظهور دهغوی په شمار دهغه چاچه تیر شوي

مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَ

دي دمخلوق ستانه او څوک چه باقي دي او څوک چه نیک بخت شوي دي

مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةٌ

په هغوی کښې او څوک چه بدبخت شوي دي داسې رحمت چه راکير

تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةٌ

کړې شمار لره او احاطه او کړې په حد باندې داسې رحمت چه نه

لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى وَلَا انْقِضَاءً

وي غايست هغه لره او نه وي انتها او نه وي تماميدل داسې رحمت

صَلَوةٌ دَائِمَةٌ يَدُ وَامِكِ وَعَلَى إِلَهٍ وَ

چه هميشه وي په هميشه والي ستاسره او په آل دهغوی او

صَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ

په اصحابو دهغوی او اوليېرې سلام پشان ددې

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے الله رحمت او ليرې زموڼيز په سردار محمد باندې دچاچه

مَلَأَتْ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْتَهُ

زړه ډک کړې دې تا دخپل جلال نه او سترگه دهغوی دخپل جمال

مِنْ جَمَالِكَ فَأَصْبَحَ فَرِحًا مُؤَيَّدًا مَنصُورًا

نه نو شولو خوشاله مدد موندونکې فتحه موندونکې او دهغوی په آل

وَعَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ

باندې او دهغوی په اصحابو باندې او سلام اوليېرې او ټول تعريف

لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الله دپاره دې په دې باندې اے الله رحمت او ليرې زموڼيز په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الزَّيْتُونِ

او زموڼيز په مولا محمد باندې په شمار د پانړو د زيتون

وَجَمِيعِ الثَّمَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دتولو میوو. اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ۝

او مولا محمد باندے په شمار دھے چه شوي دي او كيدونكي دي

وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءُ ۝

اوپه شمار دھے چه تياره كړه ده ورباندے شه او رنرا شوه ده

عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورباندے ورځ. اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر په سردار او مولا محمد

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ

باندے او دھغوی په آل باندے او دھغوی په بیبیاو باندي او دھغوی په اولاد

وَذُرِّيَّتِهِ عَدَدَ أَنْفَاسِ أُمَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ

باندے په شمار دسه گانو دامت دھغوی. اے اللہ په برکت درو

بِبَرَكَاتِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ

دسره په هغوی باندے او کړخو مونیږه په هغوی باندے درو دلکلو سره

عَلَيْهِ مِنَ الْفَائِزِينَ وَعَلَى حَوْضِهِ

د کامیابونکونه او په حوض دھغوی باندے

مِنَ الْوَارِدِينَ الشَّارِبِينَ وَبِسُنَّتِهِ ۝

تیریدو نکو سکو نکو نه او دھغوی په طریقے باندے

وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ ۝ وَلَا تَحُلْ

او دھغوی په طاعت باندے عمل کونکونه. او پرده مذجو

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

زمونیر او دھغوی تر مینځه د قیامت په ورځ اے رب العالمینه

وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ۝

او اوبخښه مونیره او زمونیره مورپلار او ټول مسلمانان

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

او ټول تعریفونه اللہ دپاره دي چه پالونکے دتولو عالمونودے



# ابْتِدَاءُ الثَّلَاثِ الثَّانِي

دویم ثلث شروع

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ای الله رحمت او لبرے او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمٍ

محمد باندے او پہ آل دسردار زمونیر محمد باندے چه دیر عزتمندے

خَلْقِكَ وَسِرَاجِ أَفْقِكَ وَأَفْضَلِ قَائِمِي

ستا پہ مخلوق کنے او چراغ دے دکنارے دآسمان ستاغوره قائمے

يَحَقِّقُ الْمَبْعُوثِ بِتَيْسِيرِكَ وَرَفَقِكَ

پہ حق ستا لیکلے شوم دے ستاپہ اسانولو سره او ستاپہ نرمی سره

صَلَاةٍ يَتَوَالِي تَكَرُّرُهَا وَتَلَوُّهُ عَلَى

داسے رحمت او لبرے چه پرله پسے وی تکرار دھغے او خلیری پہ

الْأَكْوَانِ أَنْوَارُهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

موجوداتو باندے أنوار دھغے ۝ ای الله رحمت او لبرے

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝

او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَدْرَجٍ

او زمونیر دسردار محمد په آل باندے کوم چه غوره صفت کرے شوم دے

يَقُولِكَ وَأَشْرَفِ دَاعِلِ لِإِعْتِصَامِ

ستاہ قول سره اولونے شرافت والابلونکے دے دپارہ قمشوطے نیولو

بِحَبْلِكَ وَخَاتِمِ أَنْبِيَائِكَ وَسُرِّسِكَ

درسی ستا او خاتم دے دنیانو ستا او درسونانو ستا داسے رحمت او

صَلَاةٍ تَبْلِغُنَا فِي الدَّارَيْنِ عَمِيمٍ فَضْلِكَ

لبرے چه ته او رسوے مونیرہ پہ دوارو جهانو کنے عام فضل خیل ته

وَكَرَامَةِ رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ ۝

او کرامت درضا مندی خیلے او دوصال خیل ته ای الله

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

رحمت او لبرے او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمٍ

محمد باندے او پہ آل زمونیر د سردار محمد باندے چه ڈیر عزتمند دے

الْكَرْمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ الْمُنَادِينَ

پہ تلو عزتمند کنیے د بندگانو ستانہ او ڈیر شرافت والادے پہ ندا کونکو کنیے

لِطُرُقِ رَشَادِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَيَا دِرْكَ

ستادهدایت لارے طرفتہ او چراغ دے دزمکود کنار وستا او ذبنار یوستا

صَلْوَةً لَا تَقْفُ وَلَا تَبِيدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ

داسے رحمت پرے اولیرے چه نہ فنا کیری او نہ ختمیری چه او رسوم

الْمَزِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

مونیرہ ہفے سرہ زبانی عزت تہ اے اللہ رحمت اولیرے او سلام او برکت

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الرَّفِيعِ مَقَامُهُ الْوَاجِبُ تَعْظِيمُهُ

محمد باندے چه او چت دے مقام دہفہ او واجب دے تعظیم دہفہ

وَاحْتِرَامُهُ صَلْوَةٌ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا

او احترام دہفہ داسے رحمت چه نہ منقطع کیری ہیجرے او نہ

تَقْنِي سَرْمَدًا وَلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا ۝

فانی کیری ہمیشہ وی او نہ وی منحصر پہ شمار کنیے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے اللہ رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنگہ چه تارحمت لیرے دے زمونیر پہ سردار

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَالْغُلَامِينَ

ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے پہ عالمونو کنیے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ

بیشکہ تہ ڈیر ستائیلے شومے د بندگی والائے اورحمت اولیرے اے اللہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ

خو پور سے چہ یادوی ہفہ لره یادونکی او غفلت کوی ذکر

ذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دھفہ نہ غفلت کونکی۔ اے اللہ رحمت او لیجے بہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَأَوْلَ سَيِّدِنَا

اورحم او کرے بہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

محمد باندے او برکت او لیجے بہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحَّمْتَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تادرودلیگلے دے اورحمت

وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

د لیکلے دے اوبرکت دلیگلے دے پہ سردار زمونیر ابراهیم باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

آل د سردار زمونیر ابراهیم باندے بیشکہ تہ ذیر ستائیلے شوے نے د بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

والاے اے اللہ رحمت او لیجے بہ سردار زمونیر محمد باندے چہ نبی دے

الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمَطْهَرِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

آمی دے، پاک دے، پاک کرے شوے دے او پہ آل دھفوی او سلام او لیجے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ

اے اللہ رحمت او لیجے بہ ہفہ چاچہ تا ختم کرے دے بہ ہفہ باندے رسالت

وَأَيَّدْتَهُ بِالنُّصْرِ وَالْكَوْثَرِ وَالشَّفَاعَةِ

او دھفہ تائید دکرے دے بہ امداد سرہ او پہ کوثر او شفاعت سرہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے

بِنَبِيِّ الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ

چہ نبی دے دُحکم او حکمت روینانہ چراغ دے

الْمَخْصُوصِ بِالْخَلْقِ الْعَظِيمِ وَخَتَمِ

خاص کرے شوے دے بہ عظیم خونی سرہ او ختمونکے

الرُّسُلِ ذِي الْمِعْرَاجِ وَعَلَى إِلِهِ وَ

درسولانو خاوند د معراج او پہ آل دھغوی او پہ

أَصْحَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَى

اصحابو دھغوی او پہ پیروی کونکو دھغوی کوم چہ تلونکی دی پہ

مَنْهَجِهِ الْقَوِيمِ ۝ فَأَعْظِمِ اللَّهُمَّ بِهِ

لارہ رویشانہ نیغہ بانڈے . پس عظیمہ کرے اے اللہ پہ ہغوی سرہ

مِنْهَاجِ نُجُومِ الْإِسْلَامِ وَمَصَابِيحِ

دا سلام رویشانہ ستورو لارہ او دیوے

الظَّلَامِ الْمُهْتَدَى بِهَمْرِ فِي ظُلْمَةِ لَيْلِ

ڈتیارو چہ ہدایت موندے شی پہ ہغوی سرہ پہ تیارے دشیے

الشُّكِّ الدَّائِجِ صَلَوةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً

ڈشک تورے کنے . داسے رحمت اولیہے چہ ہمیشہ جاری او سی

مَا تَلَا طَمَتَ فِي الْأَجْحَرِ الْأَمْوَاجِ وَطَا

لوغو پورے چہ چپے وہی پہ دریابونو کنے موجونہ او طواف کوی

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

دخانہ کعمے نہ دھرے لارے لارے نہ

الْحَجَّاجِ وَأَفْضَلُ الصَّلَوةِ وَالسَّلِيمِ عَلَى

حج کونکی او غورہ درود او سلام دوی پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَصَفْوَتِهِ

سردارز مونیر محمد بانڈے چہ عزتمنبرسول دھغے دے او برگزیدہ دھغے دے

مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ الْخَلَائِقِ فِي لَيْلِ عَادِ

د بند یگانونہ او شفاعت کونکے د مخلوقات تودے دقیامت پہ ورخ

صَاحِبِ لِمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ

صاحب د مقام محمود دے او دحوض دے چرتہ بہ چہ

الْمَوْرُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ

خلق راخی کوزیری بہ او چتونکے د عباگانو درسات

والتبلیغ الأعم والأخصوص بشرف

او د تبلیغ د احکامو عامو او خاصو، په شرف

السعیة فی صلاح الأعظم ۰ صلی

د کوشش کولو په ډیره لویه بیخبره کتنه، درود ډاو لیری

الله علیه وعلى إله صلوة دایمة

الله تعالیٰ په هغوی باندې او په آل دهغوی داسه درود چه همیشه

مستمرة الدوام على مراللیالوالایام

جاری وي، همیشه په جاری او سیدلو د شپو او دورخو کتنه

فهو سید الأولین والأخرین و

پس هغه سردار د او لنو او روستنو دس او

أفضل الأولین والأخرین ۰ علیه

ډیر غوره دس په رومینو او روستنو کتنه، په هغوی ډوی

أفضل صلوة المصلین ۰ وأزکی

غوره درود د درود وډیونکو، او پاکیزه

سلام المسلمین ۰ وأطيب ذکر

سلام د اسلام لیکونکو، او ډیر پاکیزه ذکر

الذکرین ۰ وأفضل صلوات الله

د ذکر کونکو او ډیر غوره درودونه دالله

وأحسن صلوات الله ۰ وأجل صلوات

او ډیر ښکلي درودونه دالله، او ډیر او چت درودونه

الله ۰ وأجمل صلوات الله ۰ و

دالله، او ډیر ښائسته درودونه د الله او

أكمل صلوات الله ۰ وأسبغ صلوات

ډیر کامل درودونه د الله او ډیر پوره درودونه

الله ۰ وأتم صلوات الله ۰ وأظهر

د الله او ډیر پوره درودونه د الله او ډیر روښانه

صلوات الله ۰ وأعظم صلوات الله

درودونه د الله او ډیر لوڼه درودونه د الله

وَأَذْكُرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَطْيَبُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر روشانه درودونه د الله. او دیر پاکیزه درودونه

اللَّهُ وَأَبْرِكُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَزْكُ

د الله، او دیر برکت والا درودونه د الله او دیر پاکیزه

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَنْتَعِي صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر زیاتیدونکی درودونه د الله

وَأَوْفِي صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَسْتَعِي صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر پوره درودونه د الله او دیر او چت درودونه

اللَّهُ وَأَعْلَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَكْثَرُ

د الله او دیر زیات او چت درودونه د الله او دیر

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَجْمَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر جامع درودونه د الله

وَأَعْمُرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر عام شوی درودونه د الله او همیشه پاتے کیدونکی درودونه

اللَّهُ وَأَبْقِي صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعَزُّ

د الله او باقی پاتے کیدونکی درودونه د الله او دیر عزتمند

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَرْفَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر او چت درودونه د الله

وَأَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِ

او دیر لوئے درودونه د الله، په دیر غوره مخلوق

اللَّهُ وَأَحْسِنُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَجَلُّ

د الله او په دیر خائسته مخلوق د الله. او په دیر او چت

خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْرَمُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَجْمَلُ

مخلوق د الله او په دیر عزتمند مخلوق د الله او په دیر خائسته

خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ خَلْقِ اللَّهِ

مخلوق د الله او په دیر کامل مخلوق د الله

وَأَتَوَخَّخُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَعْظَمُ خَلْقِ اللَّهِ

او په دیر پوره مخلوق د الله او په دیر لوئے مخلوق د الله

عِنْدَ اللَّهِ ○ رَسُولِ اللَّهِ ○ وَنَبِيِّ اللَّهِ

به نزد د الله - رسول د الله او نبي د الله

وَحَبِيبِ اللَّهِ ○ وَصَفِيِّ اللَّهِ ○ وَرَجِيِّ اللَّهِ

او حبيب د الله او غوره كړې شوم د الله او هم كلام د الله

وَخَلِيلِ اللَّهِ ○ وَوَلِيِّ اللَّهِ ○ وَآمِينِ اللَّهِ

او دوست د الله او ولي د الله او امين د الله

وَخَيْرَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ○ وَنُحْبَةِ

او غوره كړې شوم د الله د مخلوق د الله نه او منتخب شوم

اللَّهِ مِنْ بَرِيئَةِ اللَّهِ ○ وَصَفْوَةِ اللَّهِ

د الله د مخلوق د الله نه او برکزيده د الله

مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ○ وَعُرْوَةِ اللَّهِ ○ وَ

د الله په پيغمبرانو كښې او رسي د الله او

عِصْمَةِ اللَّهِ ○ وَنِعْمَةِ اللَّهِ ○ وَمِفْتَاحِ

عصمت د الله او نعمت د الله او كنجي

رَحْمَةِ اللَّهِ ○ الْمُخْتَارِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

رحمت د الله، غوره كړې شوم درسلانو د الله نه

الْمُنْتَخِبِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لِقَائِهِ بِالْمَطْلَبِ

منتخب كړې شوم د الله د مخلوق نه رسيدونكې دې مطلب ته

فِي الْمَرْهَبِ وَالْمَرْغَبِ الْمَخْلَصِ فِي

په ويږه كښې او په اميد كښې. خالص كړې شوم دې په هغه څه كښې

مَا وَهَبَ ○ أَكْرَمِ مَبْعُوثِ أَصْدَقِ

چه ور كړې شوي دي. ډير عزتمند ليكلې شوم، ډير رشتياويونكې

قَائِلِ ○ أَنْجِحِ شَافِعِ ○ أَفْضَلِ مُشْفَعِ

ډير كامياب شفاعت كونكې ډير غوره شفاعت قبول شوم امانتدار دې

الْآمِينَ فِي مَا اسْتَوْدِعَ الصَّادِقِ فِي مَا

په هغه څه كښې چه ورسره امانت شوي دي رشتنې په هغه څه كښې

بَلَّغَ الصَّادِعِ بِأَمْرِ رَبِّهِ الْمُضْطَرِّعِ بِمَا

چه رسولې ئې دي ظاهر دمكې دحكم درب خپل ثابت قدمې په هغه څه

مَحَلَّ ۞ اقْرَبِ رُسُلِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَوَسِيلَةَ

چه ورته بارشوي دي زيات نردم دالله به رسول نواكنه الله ته په وسيله كنه

وَاعْظِمِهِمْ غَدًا عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً ۞ وَ

اوزيات او چت به وي صباله قيامت كنه دالله په نردبه مرتبه كنه او

فَضِيلَةً ۞ وَاكْرَمِ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ الْكِرَامِ

په فضيلت كنه او ډير عزتمند د الله تعالي په انبياء كرامو كنه

الصَّفْوَةَ عَلَى اللَّهِ ۞ وَأَحْبِبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ

غوره شوه د الله په نزد او زيات خوښ الله تعالي ته

وَاقْرَبِهِمْ رُفَعًا لَدَى اللَّهِ ۞ وَاكْرَمِ

اوزيات نردم د الله په نزد او زيات عزتمند په مخلوق كنه الله ته

الْمَخْلُوقِ عَلَى اللَّهِ ۞ وَأَحْظَاهُمْ وَأَرْضَاهُمْ

اوزيات نردم په هغوى كنه اوزيات راضي اوسيدونك په هغوى كنه

لَدَى اللَّهِ ۞ وَأَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا ۞

د الله په نزد اوزيات او چت په خلقو كنه په مرتبه كني او ډير لوړ په هغوى

وَاعْظِمِهِمْ مَحَلًّا ۞ وَاكْبِرْهُمْ مَحَاسِنًا

كنه په مرتبه كنه او ډير كامل په هغوى كنه په نيكو او فضيلت كنه

وَفَضْلًا ۞ وَأَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةً ۞ وَ

او غوره په نبیانو كنه په درجه كنه اوزيات كامل دهغوى نه په شريعت

اَكْبِرْهُمْ شَرِيعَةً ۞ وَأَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

كنه اوزيات شرافت والا په نبیانو كنه په اصل كنه اوزيات روښانه په

نَصَابًا ۞ وَأَبِيهِمْ بَيَانًا ۞ وَخَطَابًا ۞ وَأَفْضَلِهِمْ

هغوى كنه په بيان او خطاب كنه او ډير غوره په خلقو كنه ديبداش

مَوْلِدًا ۞ وَأُمَّهَجْرًا ۞ وَعَتْرَةً ۞ وَأَصْحَابًا ۞ وَاكْرَمِ

خانې كنه او دهجرت خانې كنه او په اولاد او اصحابو كنه اوزيات


النَّاسِ أَرْوَمَةً ۞ وَأَشْرَفِهِمْ جُرْتُومَةً ۞

عزتمند په خلقو كنه په اصل كنه اوزيات شرافت والا په جماعت كنه

وَأَخْيَرِهِمْ تَفْسًا ۞ وَأَطْهَرِهِمْ قَلْبًا ۞ وَأَصْدَقَهُمْ

اوبهترين په هغوى كنه په اعتبار د خان سره اوزيات صفات زړه والا اوزيات





الحزب الثالث ۱۹۹

وَعْدًا وَ أَكْثَرَهُمْ شُكْرًا وَ أَعْلَاهُمْ أَمْرًا  
به وعده کنیے اوزیات دے هغوی کنیے به شکر گزرای کنیے اوزیات اوچت دے هغوی

وَ أَجْمَلَهُمْ صَبْرًا وَ أَحْسَنَهُمْ خَيْرًا وَ  
کنیے به فرمان کنیے اوزیات بنکلے دے هغوی کنیے به صبر کنیے اوزیات بنه دے هغوی

وَ أَقْرَبَهُمْ بَيْسْرًا وَ أَبْعَدَهُمْ مَكَانًا وَ  
کنیے به نیکی کنیے اوزیات نزد دے هغوی کنیے به آسانی کنیے اوزیات اوچت دے

وَ أَعْظَمَهُمْ شَأْنًا وَ أَثْبَتَهُمْ بُرْهَانًا وَ  
هغوی کنیے به مکان کنیے اوزیات لورے دے هغوی نه به شان کنیے اوزیات مضبوط دے

وَ أَرْجَحَهُمْ مِيزَانًا وَ أَوْلَهُمْ إِيْمَانًا وَ  
هغوی نه به دلیل کنیے اوزیات درونلے هغوی نه به میزان کنیے او اول دے هغوی نه

وَ أَضَحَّحَهُمْ بَيَانًا وَ أَفْصَحَّحَهُمْ لِسَانًا وَ  
به ایمان کنیے اوزیات واضح دے هغوی نه به بیان کنیے اوزیات فصیح دے هغوی نه

أَظْهَرَهُمْ سُلْطَانًا ○  
ژبه کنیے اوزیات ظاهر دے هغوی نه به دلیل درسات کنیے

ذآبِلُ الْغَيْبَاتِ ۱۹۸

قَوْلًا وَ أَزْكَهُمْ فِعْلًا وَ أَثْبَتَهُمْ أَصْلًا وَ  
رشتنیه به هغوی کنیے به قول کنیے اوچر پاک دے هغوی کنیے به فعل کنیے اوزیات بوخ دے هغوی کنیے

أَوْفَاهُمْ عَهْدًا وَ أَمَكْنَهُمْ مَجْدًا وَ أَكْرَمَهُمْ  
به اصل کنیے اوزیات پوره کونکے دے هغوی کنیے به لوظ کنیے اوزیات بوخ دے هغوی کنیے به بزرگی کنیے

طَبْعًا وَ أَحْسَنَهُمْ صُنْعًا وَ أَطْيَبَهُمْ فِرْعًا وَ  
اوزیات عزتمند دے هغوی کنیے به طبیعت کنیے اوزیات بنه دے هغوی کنیے به نیکی کنیے اوزیات پاکیزه دے

أَكْثَرَهُمْ طَاعَةً وَ سَمَعًا وَ أَعْلَاهُمْ مَقَامًا  
به دهغوی کنیے به اولاد کنیے اوزیات دے هغوی کنیے به بدگی کنیے او به اور بدللو کنیے اوچر اوچت دے هغوی

وَ أَحْلَاهُمْ كَلَامًا وَ أَزْكَهُمْ سَلَامًا وَ أَجْمَلَهُمْ  
کنیے به مقام کنیے اوزیات خود دے هغوی کنیے به خیر کنیے اوزیات پاکیزه هغوی کنیے به سلام کنیے اوزیات

قَدْرًا وَ أَعْظَمَهُمْ فَخْرًا وَ أَسْنَمَهُمْ فَخْرًا  
اوچت دے هغوی کنیے به فخر کنیے اوزیات اوچت دے هغوی کنیے به فخر کنیے اوزیات روجه دے هغوی کنیے به

وَ أَرْفَعَهُمْ فِي لِسَانِ الْأَعْلَى ذِكْرًا وَ أَصْدَقَهُمْ  
فخر کنیے اوزیات اوچت دے هغوی کنیے فخرشوبه وله کنیے به ذکر کنیے اوزیات رشتنیه دے هغوی کنیے

الْحَزْبُ الرَّابِعُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ  
معلوم حزب د زیارت دورخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ  
ای اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے چه ستا بندہ دے

وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
او ستا رسول دے نبی اُمی دے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
محمد باندے ای اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً  
محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے داسے رحمت

تَكُونُ لَكَ رِضَىٰ وَلَهُ جَزَاءٌ وَ لِحَقِّهِ  
چه ترے درضاسبب شی او هغوی دپاره جزاشی او دهغوی د حق دپاره

أَدَاءٌ وَأَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَ  
ادا والے شی او ورکے ورله وسیله او فضیلت او

المَقَامَ المَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرَهُ  
هغه مقام محمود ذکوم چه تا وعده کرے ده هغه سره او جز اورله ورکے

عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْرَهُ أَفْضَلُ مَا  
زمونیر د طرفه ذکومے چه هغه لائق وی او بدله ورله ورکے غوره دهغه نه


جَازَيْتَ نَبِيًّا عَن قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَن  
چه تا بدله ورکے ده یونبی ته دخپل قومنه او یورسول ته دخپل

أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنْ  
امت د طرفنه او رحمت او لبرے په ټولو رونرو دهغوی د پیغمبرانو

النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ  
نه او د نیک بختانو نه ای زیات رحم کونکیه په ټولو رحم کونکو کنجے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَواتِكَ وَ  
ای اللہ او کرخوئے غوره رحمتونه خپل

شَرَائِفَ زَكَواتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ  
او چت خیرونه او خوبیانے خپلے او زیاتیدونکی برکتونه خپل



وَعَوَاطِفَ رَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحَبُّبِكَ  
او مہربانیاں ذ بخشش خہل او رحمت خہل او سلام خہل

وَفَضَائِلَ الْأَيْكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
او غورہ نعمتوںہ خہل زمونیر پہ سردار محمد بانده

سَيِّدِنَا لِمُرْسَلِينَ وَرَسُولٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
چہ سردار د رسولانو دہ او رسول درب العلمین دہ

قَائِدِ الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبُرُوجِ رَبِّ الرَّحْمَةِ  
قائد دخیر دہ او کولاوونکے دنیکے دہ او نبی درحمت دہ

وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ ○ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا  
اوسردار دامت دہ۔ اے اللہ وے لیہے مقام محمود تہ چہ نزدہ

مَحْمُودًا تَرْزُقْ بِهِ قُرْبَهُ وَتُقْرِبْهُ عَيْنَهُ  
کرے تہ دھغہ پہ سبب قرب دھغوی او چہ یخے کرے دھغہ پہ سبب سترکے

يَغِيظُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ○  
دھغوی چہ پستخیری ورتہ دھغہ پہ سبب اولی خلق ہم او روستونی ہم

اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ  
اے اللہ ورکرے ورلہ بہتر والے او فضیلت

وَالشَّرَفَ وَالْوَسِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ  
او شرف او وسیلہ او او چتہ درجہ

وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ ○ اللَّهُمَّ أَعْطِ  
او او چتہ مرتبہ۔ اے اللہ ورکرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَبَلِّغْهُ  
زمونیر سردار محمد تہ وسیلہ او وے زسومے

مَا مَوْلَاهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ  
خہل امید تہ او وے کرخومے رومے شفاعت کونکے او رومے

مُشْفِعٍ ○ اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ وَ  
شفاعت قبول کرے شوے۔ اے اللہ او چت کرے دلیل دھغوی او

ثِقَلُ مِيزَانِهِ وَأَبْدِجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ  
دروند کرے میزان دھغوی اوروشانہ کرے حجت دھغوی او او چت کرے

فِي أَهْلِ عَلِيٍّ دَرَجَتَهُ ۝ وَفِي  
په عليين والو کننے درجه دهغوی او په

أَعْلَى الْمُقَرَّبِينَ مَنْزِلَتَهُ ۝ اللَّهُمَّ  
او چتو مقربینو کننے مرتبه دهغوی . اے الله

أَحْيِنَا عَلَى سُنَّتِهِ ۝ وَتَوْفِقْنَا عَلَى مِلَّتِهِ ۝  
مونیزوندي اولرے په طريقه دهغوی او مونیرله مرگ راولر په ملت دهغوی

وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَاحْشُرْنَا  
او اوگرخوے مونیر اهل دشفاعت دهغوی . او مونیره راپاسوے

فِي زُمْرَتِهِ وَأَوْرِدْ نَا حَوْضَهُ ۝ وَاسْقِنَا  
دهغوی په زمره کننے او مونیره ورو لر دهغوی حوض ته . او په مونیره او

مِنْ كَأْسِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَ  
خکوے دهغوی دجام نه چه نه مونیره رسواشوي یواونه شرمندہ یو او

لَا شَاكِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُغَيِّرِينَ  
نه شک کونکي یو او نه بدلونکي یو او نه تغیر راوستونکي یو

وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ أَمِينَ يَا  
او نه گمراه کونکي یو او نه گمراه کیلونکي یو . قبوله کرے اے

رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  
رب العالمینہ . اے الله رحمت او لبرے زمونیر په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
سردار محمد باندے او زمونیر د سردار محمد په آل باندے

وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفُضِيلَةَ وَالذَّجَّةَ  
او ور کرے ورته وسیله او فضیلت او درجه

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ  
او چتہ او بوئے خے هغه مقام محمود ته چہ ته

الَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ ۝  
نے ورسره وعده کرے ده سره ذہبمیر انورونر ودهغوی سره رحمت

صَلِّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِبِي الرَّحْمَةِ  
داو کري الله تعالی زمونیر په سردار محمد باندے چہ درحمت نبی دے

وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَىٰ آيِنَا سَيِّدِنَا

او سردار امت دے، او زمونیر پہ پلار حضرت آدم بانده

آدَمُ وَأُمْنَا سَيِّدَتِنَا خَوَاءَ وَمَنْ وَّلَدَا

اوزمونیر پہ موربی بی حوابانده او خوک چه هغوی نه پیدا شوی دی

مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

د پیغمبرانو نه او صدیقانوه او شهیدانوه

وَالصَّالِحِيْنَ وَصَلِّ عَلَىٰ مَلِكِكَ

او صالحانوه او رحمت او لیرے پہ خپلو ملاکو ټولوبانده

أَجْمَعِيْنَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِيْنَ

په اسمانونو کنه اوسیدونکے او په زمکوبے او سیدونکے او په

وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ ۝

مونیر بانده هم د هغوی سره اے لورے رحم کونکيه په ټولورحم کونکو کنه

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَرِوَالِدِي

اے الله او بخنیه ماته گناهونه خما او خما مور پلارته

وَأَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَ

اورحم او کرے په هغوی بانده خنکه چه هغوی زه باللے یم په ورو

لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

کوالي کنه او ټول مومنان سړي او مومنانې بنخه

وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ

اومسلمانان سړي اومسلمانانې بنخه کوم چه ژوندي دي په هغوی کنه او کوم

مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ وَتَبَاعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

چه مړه دي اوتابع کرے په مینخ زمونیره او په مینخ د هغوی کنه

بِالْخَيْرِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ

په بنه کرووسره اے رب بخنیه او کرے ماته اورحم رابلله او کرے لوته ښه پوره

خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

رحم کونکو کنه نه اونیشته دے گناهونو نه بچ کیدل اونه قوت دنیکې کولو

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝

مگر په توفیق دالله سره چه ډیر او جت او ډیر لورے دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ

ای اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ نور دے

الْأَنْوَارِ وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَسَيِّدِ

پہ انوارو کنے او راز دے پہ رازونو کنے او سردار دے

الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْاٰخِيَارِ

دنیکانو او زینت دے دمرسلانو نیکانو

وَآكْرَمِ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ

اوزیات عزتمند دے پہ ہفہ چاکنے چہ تیارہ کرے دہ ورباندے شہہ او

أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ عَدَدَ مَا نَزَلَ

رہا کرے دہ ورباندے ورخ' پہ شمار دھے چہ راکوز شوی دی

مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا مِنْ قَطْرِ

د دنیا دشروع نہ تر آخرہ پورے دغاخکو

الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا نَبَتَ مِنْ أَوَّلِ

دبارانونونہ او پہ شمار دھفہ چہ توکیدلی دی دشروع

الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا مِنَ النَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ

د دنیا نہ تر آخرہ پورے ذ بوتونہ او ذ او نونہ داسے رحمت

صَلْوَةٍ دَائِمَةٍ يَدَاؤِ مَلِكِ اللَّهِ الْوَاحِدِ

چہ ہمیشہ وی ہمیشہ والی دملک داللہ چہ یودی اوزبردست

الْقَهَّارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دے ای اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے داسے رحمت

صَلْوَةٍ تُكْرَمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَتُشْرَفُ بِهَا

چہ عزتمند کرے پہ ہفے سرہ تہکانہ دھغوی او عزتمند کرے پہ ہفے سرہ

عُقْبَاهُ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَاهُ وَ

آخرت دھغوی اووے رسوے پہ دے سرہ پہ ورخ دقیامت مرادخبل تہ او

رِضَاهُ ۝ هَذِهِ الصَّلَاةُ تَعْظِيمُ الْحَقِّكَ

رضامندی خیلے تہ. دادرود تعظیم دے دپارہ دحق ستاسو

يَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ

ای زمونیر سردار محمدہ. دے خل د اووانی. ای اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ

رحمت اولين زمونيره سردار محمدبانده چه دهغوي دنوم مبارک رحمت

وَمِيعَى الْمَلِكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ

ده او دوازه ميمونه نه ملک ددنيا او آخرت ده او دال دلالت کوي په

الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدِ مَا فِي

دوام درحمت سردار کامل ده دخيردوازه کولانکه ده خاتم د پيغمبرانو

عَلَيْكَ كَايْنٌ أَوْ قَدْ كَانَ كَلِمًا ذَكَرَكَ

ده په شمار دهغه چه ستا په علم کنه کيلونکي دي ياشوي دي چه کوم وقت

وَذِكْرَةَ الذِّكْرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ

يادوي تالره او يادوي هغوي لره يادونکي او کوم وخت چه غافل شي

ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ صَلَوَةٌ

ستادد کر نه او دهغوي دذکر نه غفلت کونکي داسه رحمت او ليريه

دَائِمَةٌ يَدَاؤِمِكَ بَاقِيَةٌ بِبَقَائِكَ

چه هميشه اوسي سره دهميشه والي ستا باقي اوسي سره دباقي والي ستا

لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ عَلَيْكَ إِنَّكَ

چه نه وي انتها دپاره دهغه سواد علم ستانه بيشکه ته

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ

په هر شيز بانده قدرت لرونکي نه دره خل داوواني اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

رحمت او ليريه زمونير په سردار محمد بانده نبي

الرُّمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

امي ده او زمونير د سردار محمد په آل بانده خوک چه

هُوَ أَبِي هُوَ أَبِي شَمُوسِ الْهُدَى تَوْرًا وَ

زيات زيبا دي دهدايت دنمونونه په رنرا کنه اوزيات غالب

أَبْهَرُهَا ۝ وَأَسِيرُ الْأَنْبِيَاءِ فَخْرًا وَ

دي په هغوي اولونيه سير کونکي په انبياو کنه په فخر کنه اوزيات

أَشْهَرُهَا ۝ وَتُورَةَ أَزْهَرِ أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ

مشاوره هغوي کنه اونور دهغوي زيات خليدونکي ده دانوارو دانبياو نه

وَأَشْرَفُهَا وَأَوْضَحُهَا وَأَزْكَىٰ خَلْقِيَّةٍ

اوزیات روینانه دے اوزیات واضحه دے او دیر پاک به مخلوق کنیے

أَخْلَاقًا وَأَظْهَرُهَا وَأَكْرَمُهَا خَلْقًا وَ

به اخلاقوسره او دیره پاکیزه او دیر عزتمند به اعتبار د پیدائش سره

أَعْدَلُهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دیر درست به هغوی کنیے اے الله رحمت اولیے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محمد باندمی چه نبی امی دے او به آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبْهَىٰ مِنَ الْقَمَرِ

محمد باندمی غوک چه زیات بے مخے دے دسپور می پوره شوع نه

التَّائِبِ وَأَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ

او زیات سخی دے د وریخے لیکلے شوع نه

وَالْبَحْرِ الْخَطْمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دغبت دریاب نه اے الله رحمت او لیے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محمد باندمی چه نبی امی دے او به آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرِنَتْ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ

محمد باندمی هغه هستی چه تر لے شوع دے برکت دهغوی ذذات سره

وَمُحَبَّاهُ وَتَعَطَّرَتْ الْعَوَالِمُ بِطِيبِ

او دهغوی مخ مبارک سره او خوشبو به شول عالمونه به خوشبوئی

ذِكْرِهِ وَرِيَّاهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د ذکر دهغوی سره او دهغوی به خوشبوئی سره اے الله رحمت اولیے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ۝

زمونیر به سردار محمد باندمی او دهغوی به آل باندمی او سلام او لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے الله رحمت او لیے زمونیر به سردار محمد باندمی او به

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل د سردار زمونیر محمد باندمی او برکت او لیے زمونیر به سردار



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے

وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا

اورحم او کره زمونږ په سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ

څنگه چه تارحمت لیرے دے او برکت دلځکه دے اورحم ذکر دے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

زمونږ په سردار ابراهیم باندے او په آل د سردار زمونږ ابراهیم باندے

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

بیشکه ته ډیر ستایلے شوم دلونے بزځي خاوندے. اے الله

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

رحمت اولیرے زمونږ په سردار محمد باندے چه ستابنده دے

وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ

او ستا نبی دے او ستا رسول دے چه نبی اُمی دے او په

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل د سردار زمونږ محمد باندے. اے الله رحمت اولیرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

زمونږ په سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ الْآخِرَةِ ۝

محمد باندے په د کوالي د دنیا او په د کوالي د آخرت

وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

او برکت او لیرے زمونږ په سردار محمد باندے او په آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ

د سردار زمونږ محمد باندے په د کوالید دنیا او په د کوالي

الْآخِرَةِ ۝ وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

د آخرت. او رحم او کره زمونږ په سردار محمد باندے

وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَ

او زمونږ د سردار محمد په آل باندے په د کوالي د دنیا او

مِلِّ الْأُخْرَةِ ○ وَاجْزِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

پہ ذکوالی د آخرت . او جز او کہے زمونیر سردار محمد کہ

وَأَلِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ الدُّنْيَا وَمِلَّ

او زمونیر د سردار محمد آل له پہ ذکوالی د دنیا او پہ ذکوالی

الْأُخْرَةِ ○ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د آخرت او سلام او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ الدُّنْيَا وَ

او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی د دنیا او

مِلَّ الْأُخْرَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ ذکوالی د آخرت . اے اللہ درود او لیبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ ○

محمد باندے خشکہ چہ تاحکم کہے دے مونیرتہ درود لیکلو پہ ہفہ باندے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي

او درود او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے خشکہ چہ بناہیرو

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ

درود لیکلو پہ ہفوی باندے . اے اللہ رحمت او لیبرے پہ خیل نبی

الْمُصْطَفَى وَرَسُولِكَ الْمُرْتَضَى وَوَلِيِّكَ

غورہ کہے شوی باندے او پہ خیل برگزیدہ رسول باندے او پہ خیل دوست

الْمُجْتَبَى وَآمِينَكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ ○

غورہ کہے شوی باندے او چہ سنا امین دے د آسمان پہ وحی باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِّمِ

اے اللہ رحمت او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ ڈیر عزتمند دے

الْأَسْلَافِ الْفَاضِلِينَ بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ

پہ مخکنوکنے قائم دے یہ عدل او اسلام باندے

الْمَنْعُوتِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ الْمُنْتَخِبِ

صفت کہے شوی دے پہ سورت اعراف کنے انتخاب کہے شوی دے

مِنْ أَصْلَابِ الشَّرَافِ وَالْبَطُونِ

د شاکانو د اشرافو او کلبو

الْخِطَافِ الْمُصَفِّ مِنْ مُصَاحِرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

صفاؤ پاکیزه و نه خلاصه د خاندان د عبدالمطلب

ابن عبد منافِ الَّذِي هَدَيْتَ بِهِ

بن مناف نه هغه هستي چه تا لاره او بنودله دهغه په ذریعه

مِنَ الْخِطَافِ وَبَيَّنْتَ بِهِ سَبِيلَ

دخلاف نه او بیانه کره تا دهغه په ذریعه لاره

الْعَقَافِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ

د پاکتي. اے الله زه غواړم تانه په وسیله د افضل ترين

مَسْأَلَتِكَ وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَ

سوال چه تانه کولې شي او په وسیله د محبوب نومونو تانه اوزیات

أَكْرَمِهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا

عزتمند دهغه تانه اوسره دهغه احسان نه چه تا په مونږ باندې کرې دې

بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

په رالیکلو د سردار زموږ محمد کوم چه زموږ په نبي دې صلي الله عليه

وَسَلَّمَ فَاسْتَنْقَذَ تَنَائِبَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ

وسلم. نو تانمونږه خلاص کړو دهغه په ذریعه د گمراهي نه او تارانه

أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا

حکم کرې دې د درودونو په هغوی باندې او تاگر خولې دې درود

عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَّارَةً وَطُفَاءً وَمَنًّا

مونږ په هغه باندې درجه او کفارو او مهرباني او احسان

مِنْ أَعْطَاكَ فَأَدْعُوكَ تَعْظِيمًا

د خپلو ورکرونه. نوزه دُعا غواړم تانه سره د تعظیم

لَا مَرِكَ وَاتِّبَاعًا لَوْصِيَّتِكَ وَمُنْتَجِزًا


د حکم ستا اوسره د پیروي کولو د وصیت ستا اوسره د وفا کولو

لِمَوْعُودِكَ لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا سَيِّدِنَا

دوعده ستا دپاره دهغه چه واجب دي د پاره د نبي او سردار زموږ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آدَاءِ

محمد صلي الله عليه وسلم په ادا کولو



حَقُّهُ قَبْلَنَا إِذْ أَمَّنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَا

دحق دھغوی زمونیر دطرفہ حکمہ مونیر ایمان راوہے دے پہ ہغوی بقلہ او مونیر دھغوی تصدیق کرے دے

التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ وَقُلْتَ وَقَوْلِكَ

اویروی مو کرے دہ دھغہ نورچہ نازل کرے شودے ہغوی سرہ اوونیلی دی تااوونیاستا

الْحَقُّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

حقہ دہ چہ بیشکہ اللہ تعالیٰ او دھغہ فرشتے درود لیگی پہ

النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

نبی بانلے اے ایمان دارو درود او لیگی پہ ہغہ بانلے

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَأَمَرَتِ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ

اوسلام پرے اولیگی ڈیر سلام او حکم ڈکرے دے بندگانو تہ پہ درود لیگیو

عَلَى نَبِيِّهِمْ فَرِيضَةً إِفْتَرَضْتَهَا وَأَمَرْتَهُمْ

خپل پیغمبر بانلے داو فرض دے چہ تافرض کرے دے او حکم ڈکرے دے بندگانو تہ

بِهَا فَانْسئْكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَتَوَرُّعِ عَظْمَتِكَ

پہ دے سرہ تو سوال کوؤ تانہ سرہ دجلال ذات ستا اوسرہ د نور د عظمت ستا

وَمَا أَوْجَبَتْ عَلَى نَفْسِكَ لِلْمُحْسِنِينَ

اوسرہ دھغے چہ واجب کرے دی تا پہ خان خپل دبارہ دنیکانو

أَنْ تُصَلِّيَ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ درود اولیگی تہ او فرشتے ستا زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ

محمد بانلے چہ ستا بنلہ دے او ستا رسول دے اوستانی دے

وَصَفِيِّكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفْضَلَ

اوستاغورہ کرے شومے اوخوبی کرے شومے دے پہ مخلوق ستا کنے

مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ

ہغہ غورہ درود چہ تالیگلے دے پہ یو گس بانلے د مخلوق خپل نہ

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ

ہیشکہ تہ ڈیر ستانیلے شومے دلویں خاوندے اے اللہ پور تہ کرے

وَآكْرِمْ مَقَامَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَ

در چہ دھغہ او عزتمند کرے مقام دھغہ او دروند کرے میزان دھغہ او

أَبْلَجُ حُجَّتَهُ وَأَظْهَرَ مِلَّتَهُ وَأَجْزِلُ

او رویشانه کہے دلیل دھغہ او ظاہر کہے ملت دھغہ او زیات کہے

ثَوَابَهُ وَأَضْيُ نُورَهُ وَأَدْمُ كِرَامَتَهُ

ثواب دھغہ اور رویشانه کہے نور دھغہ او ہمیشہ اولیٰ کہے کرامت دھغہ

وَالْحَقُّ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ

او ملاؤ کہے ورسرہ اولاد دھغہ او اہل بیت دھغہ چہ بخے شی

مَا تُقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ وَعَظْمُهُ فِي النَّبِيِّنَ

ورسرہ ستر کہے دھغہ او اوچت نے کہے بہ ہغہ پیغمبرانو کہے کرم

الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

چہ تیر شوی دی مخکنے دھغہ نہ؛ اے اللہ او کرخوے زمونیر سردار

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أَكْثَرَ النَّبِيِّنَ

محمد زیات پہ تولو پیغمبرانو کہنے پہ اعتبار د پیروی کونکو سرہ

تَبَعًا وَأَكْثَرَهُمْ أَرْسَاءً وَأَفْضَلَهُمْ

او پہ تولو کہنے زیات پہ اعتبار دوزیرانو سرہ او تولو کہنے غورہ

كَرَامَةً وَنُورًا ۝ وَأَعْلَهُمْ دَرَجَةً

بہ اعتبار د کرامت او نور سرہ او پہ تولو کہنے اوچت پہ اعتبار د درجے سرہ

وَأَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ۝ اللَّهُمَّ

او ڈیرہ فراخہ ور کہے بہ جنت کہنے مرتبہ اے اللہ

اجْعَلْ فِي السَّابِقِينَ غَايِبَةً وَفِي لَمْتَخِينِ

او کرخوے پہ مخکنو کہنے غایت دھغہ او پہ منتخب شوؤ کہنے

مَنْزِلَةً ۝ وَفِي الْمُقَرَّبِينَ دَارَةً وَفِي

مقام دھغہ او پہ مقربانو کہنے کوردھغہ او پہ

الْمُصْطَفَيْنِ مَنْزِلَةً ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ

غورہ کہے شوؤ کہنے مرتبہ دھغہ؛ اے اللہ او کرخوے ہغہ لہ

أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَ

ڈیر عزتمند پہ عزتمند و کہنے پہ خیل نزد پہ مرتبہ کہنے

أَفْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَأَقْرَبَهُمْ مَجْلِسًا وَ

او غورہ دھغوی نہ پہ ثواب کہنے او زیات نزد دھغوی نہ پہ مجلس کہنے او

اَثْبَتَهُمْ مَقَامًا وَاَصْوَبَهُمْ كَلَامًا وَاَوْزِيَاتٍ مَضْبُوطٍ دَهْفُوئِي نَهْ بِهٖ مَقَامِ كُنِيَةِ اَوْزِيَاتٍ غُورِهٖ دَهْفُوئِي نَهْ سَتَا بِهٖ نَزْدٍ

اَوْزِيَاتٍ مَضْبُوطٍ دَهْفُوئِي نَهْ بِهٖ مَقَامِ كُنِيَةِ اَوْزِيَاتٍ غُورِهٖ دَهْفُوئِي نَهْ سَتَا بِهٖ نَزْدٍ

اَتَجَحَّهٖمْ مَسْئَلَةً وَاَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ

زِيَاةٍ فَتَحْمَنِدُ دَهْفُوئِي نَهْ بِهٖ سَوَالِ كُنِيَةِ اَوْزِيَاتٍ غُورِهٖ دَهْفُوئِي نَهْ سَتَا بِهٖ نَزْدٍ

نَصِيْبًا وَاَعْظَمَهُمْ فَيَمَّا عِنْدَكَ رَغْبَةً

بِهٖ نَصِيْبِ كُنِيَةِ اَوْدِيْرِ لُوْنِي دَهْفُوئِي نَهْ بِهٖ هَفْهٖ شَخْ كُنِيَةِ چِهٖ تَا سَرِهٖ دِي

وَاَنْزَلَهُ فِي عُرْفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ

دِرْغَبْتِ نَهْ اَوْ نَاذَلِ نِي كَرِي بِهٖ دِرْجُو دِ فِرْدَوْسِ كُنِيَةِ دِ

الدَّرَجَاتِ الْعُلَى الَّتِي لَا دَرَجَةَ قَوْقَهَا

اَوْ چِتُو دِرْجُو نَهٗ دِ كُوْمِي نَهٗ بِهٖ سَ چِهٖ بَلَهٗ دِرْجِهٖ نِي شَتَهٗ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا اَصْدَقَ

اِي اللّٰهٗ اَوْ مَكْرُخُوْمِي زَمُوْنِيْرِ سِرْدَارِ مُحَمَّدِ دِيْرِ رَشْتِيَنِ

قَائِلٍ وَاَنْجَحَ سَائِلٍ وَاَوَّلَ شَافِعٍ

وَيُوْنِكِي اَوْ دِيْرِ فَتَحْمَنِدُ دَهْرِ سَوَالِ كُوْنِكِي نَهٗ اَوْ رُوْمِي شَفَاعَتِ كُوْنِكِي

وَاَفْضَلَ مُشَفِّعٍ وَّشَفِّعَهُ فِي اُمَّتِهِ

اَوْ دِيْرِ غُوْرِهٖ شَفَاعَتِ قَبُوْلِ شُوْمِي اَوْ شَفَاعَتِ قَبُوْلِ كَرِي بِهٖ حَقِ دَاْمَتِ دَهْفِهٖ

بِشَفَاعَةِ يَغِيْطُهُ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ

كُنِيَةِ دَا سِي شَفَاعَتِ چِهٖ اَوْ پَسَخِيْرِي وَرْتِهٖ اَوْ لَنِي هَمِ اَوْ اٰخِرِنِي هَمِ

وَإِذَا مَيِّزْتَ عِبَادَكَ بِفَضْلِ قَضَائِكَ

اَوْ هَرِ كَلَهٗ چِهٖ جِدَا كَرِي بِنَدِگَانِ خِيَلِ بِهٖ فَيَصْلِي دِ حَكْمِ خِيَلِ سَرِهٖ

فَاَجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا اِنْفِي لْاَصْدَقِيْنَ

لُو اَوْ مَكْرُخُوْمِي زَمُوْنِيْرِ سِرْدَارِ مُحَمَّدِ بِهٖ دِيْرِ رَشْتِيَا وَيُوْنِكُو كُنِيَةِ

قِيْلًا وَّفِي لْاَحْسَنِيْنَ عَمَلًا وَّفِي لْمُهْدِيِّينَ

اَوْ بِهٖ دِيْرِ بِنَهٗ عَمَلِ كُوْنِكُو كُنِيَةِ اَوْ بِهٖ هِدَايَتِ كَرِي شُوُوْ كُنِيَةِ

سَيِّدًا ۞ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا لَنَا

بِهٖ دِيْنِ كُنِيَةِ . اِي اللّٰهٗ اَوْ مَكْرُخُوْمِي نَبِيِّ زَمُوْنِيْرِ مُوْنِيْرِ دِ بَارِهٖ مَخْكِنِيَةِ

قَرَطًا وَاَجْعَلْ حَوْضَهُ لَنَا مَوْعِدًا

لِهٖ بِنْدُوْبَسْتِ كُوْنِكِي اَوْ اَوْ مَكْرُخُوْمِي حَوْضِ دَهْفِهٖ مُوْنِيْرِ دِهَارِهٖ خَائِي دُوْعَلِي

لَا وَّلَنَا وَآخِرِنَا ۝ اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي

زمنیہ رومیونہ چارہ اوزمنیہ روستود پارہ۔ اے اللہ پاسوے مونیہ پہ دلے دھغوی کنیہ

زُمرَتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا فِي سُنَّتِهِ وَتَوَقَّنَا

اومونیہ استعمال کرے چہ طریقے دھغوی کنیہ او وفات راکرے مونیہ دھغہ پہ ملت

عَلَى مِلَّتِهِ وَعَرِّفْنَا وَجْهَهُ واجْعَلْنَا

بائنے او اوینڈلے کرے پہ مونیہ بائے مخ دھغوی او دا خل کرے مونیہ دھغوی پہ

فِي زُمرَتِهِ وَحزْبِهِ ۝ اللَّهُمَّ اجْمَعْ

زُمرے او پہ دلہ کنیہ اے اللہ جمع والے او کرے پہ مینخ زمونیہ کنیہ او پہ مینخ دھغہ

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا آمَنَّا بِهِ وَلَمْ نَرَهُ

کنیہ خنگہ چہ مونیہ ایمان راورے دے پہ ہغہ بائے اولیلے مونہ دے او جلتی مہ

وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تَدْخُلْنَا

راولے پہ مینخ زمونیہ او کھغہ کنیہ تردے پورے چہ مونیہ داخل کرے نخرے

مَدْخَلَهُ وَتُورِدَنَا حَوْضَهُ وَتَجْعَلْنَا

دداخلیلو دھغہ تہ او مونیہ ورولے دھغوی حوض تہ او مونیہ او گھر خورے

دداخلیلو دھغہ تہ او مونیہ ورولے دھغوی حوض تہ او مونیہ او گھر خورے

مِنْ رُفَقَائِهِ مَعَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

دھغوی دملکرونہ سرہ دھغہ خلقو چہ انعام پرے شوے دے دیبغمبر انونہ

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَ

او صدیقانونہ او شہیدانونہ او صالحانونہ او

حَسَنَ أَوْلِيكَ رَفِيقًا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

دہربنہ دی دغہ خلق مرکری او تبول تعریفونہ خاص اللہ د پارہ دی

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

چہ رب د عالمونو دے

أَبْتَدَأَ الرَّبُّعَ الثَّالِثَ

د دریم رُبع ابتدا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ

اے اللہ رحمت او لیبرے زمونیہ پہ سردار محمد باندے چہ نور

الْهُدَى وَالْقَائِدِ إِلَى الْخَيْرِ وَالدَّاعِيَ

دھلبایت دے او راہنکونکے دے نیکی طرفتہ او راہلونکے دے

دھلبایت دے او راہنکونکے دے نیکی طرفتہ او راہلونکے دے

إِلَى الرُّشْدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ

راستوالی طرفتہ نبی درحمت دے امام ذہرہیز نگارانو دے اورسول درب

وَسَوْءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا تَنبِي بَعْدَهُ

العالمین دے نیشته ہیخ پیغمبر ہغوی نہ پس خنگہ چہ راستولے نے

كَمَا بَلَغَ رِسَالَتَكَ وَتَصَمَّ لِعِبَادِكَ وَتَلَا

دے پیغام ستاوخیر خواہی نے کرے دہ بندگانو ستااولوستی نے دی

آيَاتِكَ وَأَقَامَ حُدُودَكَ وَوَفَّى بِعَهْدِكَ

آیتونہ ستاواقائم کری نے دی حدونہ ستا اوپورہ کرے نے دے لوظ ستا

وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهَى

اونافذ کرے نے دے حکم ستاوحکم نے کرے دے طاعت ستاومنع نے

عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَوَالَى وَلِيِّكَ الَّذِي

کرے دے دنافرمانی ستانہ اودوستی نے کرے دہ ستاھفہ دوست سرہ چہ

تُحِبُّ أَنْ تُوَالِيَهُ وَعَادَى عَدُوَّكَ الَّذِي

خوبنوں تہ دوستی کول ہفہ سرہ اودشمنی نے کرے دہ ستاھفہ دینمن سرہ

تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ تہ خوبنوں دشمنی کول ہفہ سرہ اورحمت دینازل کری اللہ تعالیٰ زمونیر

مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِهِ

پہ سردارمحمد باندمے . اے اللہ رحمت او لیرے پہ بدن دھغوی

فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ

پہ بدنونو کینے او پہ روح دھغوی پہ رحونو کینے

وَعَلَى مَوَاقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ وَعَلَى

اوپہ خانے درودریدلو دھغوی پہ حانیونو دودریدلو کینے او پہ

مَشَاهِدِهِ فِي الْمَشَاهِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ

خانے دحاضریدلو دھغوی پہ خایونو دحاضریدلو کینے اوپہ ذکر دھغوی

إِذَا ذُكِرَ صَلَوةٌ مِنَّا عَلَى نَبِيِّنَا ۝

کلہ چہ ذکر کرے شی درود زمونیر دطرفنہ زمونیر پہ نبی باندمے

اللَّهُمَّ أْبْلِغْهُ مِنَ السَّلَامِ كَمَا ذُكِرَ

اے اللہ ورتہ اورسوں زمونیر دطرفنہ سلام خنگہ چہ ذکر شومے دے



السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ

سلام او سلام دوي به نبي باندې او رحمت

اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

دالله او برکتونه دهغه. اے الله رحمت او لپږې

عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ

په خپلو مقربو فرشتو باندې او په خپلو پيغمبرانو باندې

الْمُطَهَّرِينَ وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِينَ

چه پاکيزه دي او په خپلو ليکلو شوؤ رسولانو باندې

وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَعَلَى سَيِّدِنَا

او په او چتونکو دعرش ستا باندې او زمونږ په سردار

جَبْرِئِيلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا

جبرئیل باندې او زمونږ په سردار میکائیل باندې او زمونږ په سردار

إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا مَلِكِ الْمَوْتِ وَ

اسرافیل باندې او زمونږ په سردار ملک الموت باندې او

سَيِّدِنَا رِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ وَسَيِّدِنَا

زمونږ په سردار رضوان دجنت نگهبان باندې او زمونږ په سردار

مَالِكٍ وَصَلِّ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ

مالک باندې او رحمت اولپږې په کراما کاتبین باندې

وَصَلِّ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

او رحمت اولپکې په خپلو تابعدارو ټولو باندې

مِنَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ ○

د آسمانونو او سیدونکو نه او دزمکو او سیدونکونه

اللَّهُمَّ رَاتِ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ

اے الله ورکړې دخپل نبي اهل بيتو ته ډير غوره دهغه څه نه

مَا آتَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ

چه تا ورکړې دي يوکس ته داهل بيتو

الْمُرْسَلِينَ وَأَجْزَأَ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ

د رسولونو نه او جزا ورکړې اصحابو د نبي خپل ته

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ

زیاتہ غورہ دھغے نہ چہ تا جز اور کرے دہ یوکس تہ داصحابو

الْمُرْسَلِينَ ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ

درسولانوںہ اے اللہ بخینہ او کرے مومنانو و سروتہ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

او مومنانو بنخوتہ او مسلمانانو سروتہ او مسلمانانو بنخوتہ

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ۝ وَاعْفِرْ لَنَا

کوم چہ ژوندی دی دھغونہ او کوم چہ مرہ دی او بخینہ او کرے مونیترہ

وَأَخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

اوز مونیترہ ہغہ رونروتہ چہ مونیترہ مخکنے تیرشوی دی پہ ایمان سرہ

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

او مہ ساتے زمونیترہ پہ زرونو کننے کینہ د بارہ دمومنانو

رَبَّنَا إِنَّكَ رءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ

اے ربہ زمونیترہ بیشکہ تہ دیر مہربان دیر رحم کونکے نے اے اللہ

صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحمت او لیجے پہ نبی ہاشمی زمونیترہ پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ۝

اودھغوی پہ آل باندے او پہ اصحابو باندے او سلام پرے او لیجے دیر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ

اے اللہ رحمت اولیجے زمونیترہ پہ سردار محمد باندے شوک چہ بہتر دے

الْبَرِيَّةِ صَلَوةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَ

پہ مخلوق کننے داسے رحمت چہ راضی کرے تالرہ اوراضی کرے تہ ہغہ

تُرْضِيَهُمَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۝

لرہ او چہ راضی شے پہ ہغہ سرہ زمونیترہ اے دھرچانہ زیات رحم کونکے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیترہ پہ سردار محمد باندے او

عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

دھغوی پہ آل او اصحابو باندے او سلام او لیجے دیر دیر سلام

طَيْبًا مُّبْرَكًا فِيهِ جَزِيلًا جَمِيلًا دَائِمًا

چه پاک وي برکت ورکړه شوه وي په هغه کېږي او بڼکله وي

يَدَاوَامِ مُلْكِ اللَّهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

هميشه وي په هميشه والي د حکومت د الله اے الله رحمت او ليرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

زمونږ په سردار محمد باندې او دهغوئ په آل باندې په د کوالي

الْفُضَاءِ وَعَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ

د فضا باندې او په شمار دستور د اسمان

صَلْوَةً تُوَازِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

داسې رحمت چه وزن لري د اسمانونو او د زمکې

وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ

او په شمار دهغه څه چه تا پيدا کړي دي او څه چه ته پيدا کونکې ئے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د قيامت تر ورځنې پورے اے الله رحمت او ليرے په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونږ محمد باندې او په آل د سردار زمونږ محمد باندې

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ

څنگه چه تارحمت کړې دے زمونږ په سردار ابراهيم باندې او برکت او

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ليرے زمونږ په سردار محمد باندې او زمونږ د سردار محمد په آل

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

باندې څنگه چه تا برکت ليکلې دے زمونږ په سردار

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

ابراهيم باندې او په آل د سردار زمونږ ابراهيم باندې

فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

په عالمونو کېږي بيشکه چه ته ډير ستايلې شوه ئے د بزرگي والا ئے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

اے الله زه غواړم تانه معافي او عافيت

فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ○

به دین کنی او به دنیا کنی او به آخرت کنی

ثَلَاثًا ○ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ

دری خل داوانی. ای الله پرده و اجوی به مونیر باندی به بنی پردی

الْجَمِيْلِ ○ ثَلَاثًا ○ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ

عجلی سره (دری خل داوانی) ای الله زه غوارم تانه

بِحَقِّكَ الْعَظِيْمِ وَبِحَقِّ نُورِ وَجْهِكَ

به لوی حق ستا او به حق دنور دذات

الْكَرِيْمِ وَبِحَقِّ عَرْشِكَ الْعَظِيْمِ

عزتمند ستا او به حق د عرش عظیم ستا

وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيِّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ

او به هغه چا سره چه او چته کرے نے ده کرسی ستا دعظمت ستانه

وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبِهَائِكَ

او دجلال ستانه او دجمال ستانه او دخوبی ستانه

وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ اَسْمَائِكَ

او دقدرت سنا نه او دغلی ستانه او به حق دنومونو ستا

الْمَخْرُوْنَةِ الْمَكْنُوْنَةِ الَّتِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا

کوم چه خزانه شوی او پت دی کومو باندی چه خیردار نه دی

اَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ ○ اَللّٰهُمَّ وَاسْئَلُكَ

هخ شوک دمخلوق ستانه. ای الله او سوال کوم تانه

بِاِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْبَيْلِ فَاطْلَمَ

به وسیله دهغه نوم ستا چه تاکیخودلویه شبه باندی نو تیاره شوه

وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ

او به ورخ د کیخودونو رویشانه شوه او به آسمانو بلندی

فَاسْتَقَلَّتْ ○ وَعَلَى الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ

نو قائم شول او په زمکه باندی نو حصاره شوه

وَعَلَى الْاِحْبَالِ فَارْسَتْ وَعَلَى الْبِحَارِ

او په غرونو باندی نو مضبوط شول او په دریابونو باندی

وَالْأُودِيَّةِ فَجَرَّتْ ۝ وَعَلَى الْعِيُونِ

او په خوړونو باندې نو جاري شول او په چينو باندې

قَنَبَعَتْ ۝ وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ ۝

نوراؤ خوټکېدې او په ورنجو باندې نو اوورېدې

وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ

اوسوال کوم تانه اے الله شتا په هغه نومونوسره کوم چه لیکلي شوي دي

فِي جَهَّةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

په تندي د سردار زمونږ اسرافيل عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَهَّةِ سَيِّدِنَا

او په هغه نومونوسره چه لیکلي شوي دي په تندي د سردار زمونږ

جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى لِمَلِكِيكَ

جبرئيل عليه السلام او سلام دوي په ملائکو

الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ

مقربينو باندې. او سوال کوم تانه په وسيله دهغه نومونوسره

الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَيَا أَسْمَاءَ

چه لیکلي شوي دي چا پیره دعرش نه او په هغه نومونوسره

الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَأَسْأَلُكَ

چه لیکلي شوي دي چا پیره دکرسي نه، او سوال کوم تانه

اللَّهُمَّ يَا إِسْمَاءَ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ

اے الله دهغه نوم په وسيله سره چه لیکلي شوي دي په پاڼه

الرِّيْتُونِ ۝ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ

دريتون باندې. اوسوال کوم تانه اے الله په وسيله دهغه نومونوسره

الْعِظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا

چه عظيم دي کوم چه تا ايخولي دي په خپل ځان باندې کوم چه

عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝

ماته معلوم دي او کوم چه ماته نه دي معلوم.

الْحَزْبُ الْخَامِسُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
پنجم حزب دجمعہ دو رخت

وَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ بِأَسْمَاءِ الْعِظَامِ الَّتِي  
او سوال كوم تانه اے اللہ پہ وسیلے دھغے خچلو عظیمو نومونو سره

سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ  
كوم چه تا ايخي دي په خان خچل كوم چه ماته معلوم دي او

مَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَسْمَاءِ  
كوم چه ماته نه دي معلوم. او سوال كوم تانه اے اللہ پہ وسیلے دھغے نومونو

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَادِمٍ عَلَيْهِ  
سره چه رابللے نے په هغه سره زمونيره سردار آدم عليه السلام

السَّلَامُ ○ وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ  
او په وسیلے دھغه نومونو سره چه ته رابللے نے

بِهَا سَيِّدُ نَادِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ  
په هغه سره زمونير سردار نوح عليه السلام. او

بِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا  
په وسیلے دھغے نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره زمونير سردار

هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي  
هود عليه السلام او په وسیلے دھغے نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○  
رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار ابراهيم عليه السلام

وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا  
او په وسیلے دھغه نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره زمونير سردار

صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي  
صالح عليه السلام او په وسیلے دھغے نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○  
چه رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار يونس عليه السلام

وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا  
او په وسیلے دھغے نومونو سره چه رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار

أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ

ایوب علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاعِقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار یعقوب علیه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَايُوسُفُ

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ

سرداریوسف علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږ سردار موسی علیه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ

سردارهارون علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره

النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا شُعَيْبُ عَلَيْهِ

چه دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږ سردار شعيب علیه السلام

السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ

اوپه وسیله دهغه نومونو سره چه دعا غوښته ده تانه په هغه سره

بِهَا سَيِّدُ نَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

زمونږ سردار اسماعیل علیه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ

سردار داؤد علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ

چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار سلیمان علیه السلام

السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ

او په وسیله دهغه نومونو سره چه دعاغوښته ده تانه

بِهَاسِيْدُ نَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

به هغه سره زمونږه سردار زكريا عليه السلام

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

يَجِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي

سردار يحيى عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا اَرْمِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار ارمياء عليه السلام

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

شُعْبَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي

سردار شعباء عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار الياس عليه السلام

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْيَسَعَ

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

سردار يسع عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته

بِهَاسِيْدُ نَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

ده تانه په هغه سره زمونږه سردار ذوالكفل عليه السلام. او په

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار

يُوشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي

يوشع عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا عِيْسَى بِنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار عيسى بن مريم عليه

السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

السلام او په وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره



ذکر اللہ تعالیٰ ۲۲۶ الجزب الناصب

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 سردار زمونير محمد صلي الله عليه وسلم

وَعَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَنْ  
 او رحمت دوي په ټولو نبيانو او رسولا نوباندې داچه

تُصَلِّيَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ عَدَدَ  
 رحمت اوليرې زمونير په سردار محمد خپل نبي باندې په شمار

مَا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ  
 دهغه چه تا هغه پيدا كړې دې مخكې دده نه چه وواسمان

مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ  
 جوړكړې شوم اوزمكه غوړولې شوم اوغرونه

مُرْسَاةً وَالْبِحَارُ مُجْرَاةً وَالْعِيُونُ  
 برابر كړې شوي اودريابونه جاري كړې شوي اوچينه بهيولې شوم

مُنْفَجِرَةً وَالْأَنْهَارُ مِنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ  
 او نهرونه روان شوي او نمر

ذکر اللہ تعالیٰ ۲۲۷ الجزب الناصب

مُضِيَّةً وَالْقَمَرُ مُضِيًّا وَالْكَوَاكِبُ  
 روپسانه شوم اوسپوړمې رڼا كونكې او ستوري

مُسْتَنْيرَةً كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ لَا يَعْلَمُ  
 خليفونكي. وې ته چرته چه وې نه وه معلومه


أَحَدٌ حَيْثُ كُنْتَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَاكَ لَا  
 هيچاته چه كوم ځانې وې ته؛ سوا دستانه ته ايكي يوه

شَرِيكَ لَكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  
 نېشته هيڅوك شريك ستا. اے الله رحمت اوليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ ۝ وَ  
 سردار زمونير محمد باندې په شمار د حلم خپل او

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ ۝  
 رحمت او ليرې زمونير په سردار محمد باندې په شمار د علم خپل

وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ ۝  
 اورحمت اوليرې په سردار زمونير محمد باندې په شمار د كلماتو خپل



وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ نِعْمَتِكَ ۞

اور رحمت اولیہ زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دنعمتونو خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ سَمَوَاتِكَ ۞

اور رحمت اولیہ پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ ڈکوالی دآسمانونو خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ أَرْضِكَ ۞

اور رحمت اولیہ پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ ڈکوالی دزمکے خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ عَرْشِكَ ۞

اور رحمت اولیہ زمونیرہ سردار محمد باندے پہ ڈکوالی دعرش خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ ۞

اور رحمت اولیہ زمونیرہ سردار محمد باندے پہ وزن دعرش خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ مَا جَرَى

اور رحمت اولیہ زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دھغے چہ جاری شوعے دے

بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ۞ وَصَلِّ عَلَى

ور باندے قلم پہ لوح محفوظ کنے اور رحمت اولیہ زمونیرہ سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ مَا خَلَقْتَ فِي

محمد باندے پہ شمار دھغہ مخلوق چہ تا پیدا کرے دے پہ خیلو

سَبْعِ سَمَوَاتِكَ ۞ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آسمانونو کنے اور رحمت اولیہ زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَّةَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيهِنَّ ۞

محمد باندے پہ شمار دھغہ مخلوق چہ تے پیدا کونکے نے پہ دوی کنے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۞

دقیامت ترورخے پورے پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ

اور رحمت اولیہ زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار

كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى

دھر شاخکی چہ وریدلے دے ستا داسمانونو ستا

أَرْضِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

زمکے تہ دکومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ دقیاامت

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○  
تورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ  
او رحمت او لیبرے زمونیر بہ سردار محمد بانڈے بہ شمار

مَنْ يُسَبِّحُكَ وَيُهَلِّلُكَ وَيُكَبِّرُكَ وَ  
دھغہ چا چہ ستا تسبیح وانی او ستا تھلیل وانی او ستا تکبیر وانی او

يُعَظِّمُكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى  
ستا تعظیم کوی دکومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ د قیامت

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○  
تر ورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ  
او رحمت او لیبرے زمونیر بہ سردار محمد بانڈے بہ شمار

أَنْفُسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
دساہ گانو دھغوی اود الفاظ دھغوی اور رحمت اولیبرے زمونیر بہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَةٍ خَلَقْتَهَا فِيهِمْ  
محمد بانڈے بہ شمار دھروح چہ تا پیدا کرے دے بہ دونی کنے

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کرے دہ دنیا د قیامت تر ورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ  
بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے۔ اے اللہ رحمت نازل کرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ  
زمونیر بہ سردار محمد بانڈے بہ شمار دوریخو

الْجَارِيَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
چہ منہرے وہی۔ او رحمت نازل کرے زمونیر بہ سردار محمد بانڈے

عَدَدَ الرِّيحِ الذَّارِيَةِ مِنْ يَوْمٍ  
بہ شمار دھواگٹانو چہ چلن کوی دکومے ورخ نہ چہ تا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ  
دنیا پیدا کرے دہ د قیامت تر ورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے

يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

زرخلی. اے اللہ رحمت اولیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ هَبَّتْ عَلَيْهِ

سردار محمد باندمی پہ شمار دھغہ خیزونو چہ چلییری ورباندمی

الرِّيَّاحُ وَحَرَكَتُهُ مِنَ الْأَغْصَانِ

ھواگانے او حرکت نے ورکھے دیے ورلہ دخانکونہ

وَالْأَشْجَارِ وَالْأَوْرَاقِ وَالنِّمَارِ وَجَمِيعِ

او ذ اونونہ او دہانپونہ او دمیوونہ اوتول ھغہ خہ

مَا خَلَقْتَ عَلَى أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ

چہ تا پیدا کړی دی پہ خپلہ زمکہ باندمی اوپہ مینخ داسمانونو خپلو کینے

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کړے دہ دنیا د قیامت تر ورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ھرہ ورخ کینے زرخلے. اے اللہ رحمت اولیہیے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ

زمونیر پہ سردار محمد باندمی پہ شمار دسورو د آسمان

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کړے دہ دنیا د قیامت تر ورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ھرہ ورخ کینے زرخلے. اے اللہ رحمت اولیہیے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِثْلَ أَرْضِكَ وَمَا

زمونیر پہ سردار محمد باندمی پہ د کوالی د زمکے خپلے کوم چہ ھغہ

حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ۝

پورته کړی دی او برداشت کړی نے دی ستا پہ قدرت سرہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار محمد باندمی پہ شمار دھغہ

مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ بَحَارِكَ وَمَا لَا يَبْعَلُهُ

چہ تا پیدا کړی دی پہ اوو دریا بونو خپلو کینے د کومو چہ علم نیشته

عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهَا

مکرتاته دے او دکوموچہ تہ پیدا کونکے نے پہ دے کنے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○

دقیامت ترورخ ہورے پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار

مِائَةِ سَبْعِ بِحَارِكِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دکوالی داوود دریاہونو ستا او رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِحَارِكِ هَذَا حَمَلَتْ

محمد باندے پہ وزن داود دریاہونو ستا ہفہ خیزونو سرہ چہ اوچت کرے

وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ○ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

نے دی او برداشت کری نے دی دقدرت ستانہ اے اللہ اور رحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْوَاجِ بِحَارِكِ

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دچپو د دریاہونو ستا

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کرے دہ دنیا دقیامت ترورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے اے اللہ او رحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ الْخَصْ

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دشکو اوڈ کوت کانرو

فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضِينَ وَسَهْلِهَا وَجِبَالِهَا

پہ خانے دقرار دزمکواو دنرے حصے دھے او ڈغر نیرے حصے دھے

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ دنیا دقیامت ترورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے اے اللہ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ إِصْطِرَاطِ

اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار ڈ خو کیدلو

الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَالْمِلْحَةِ مِنْ يَوْمٍ

دخورد او بو او ذ مالکینو او بو ذ کومے ورخ نه چه تا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

بیدا کرے ده دنیا ذ قیامت ترورخ پورے به هره

يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ کنیے زرخلیے او رحمت او لیرے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ عَلَى جَدِيدٍ

محمد بانده به شمار دهغو چه تا پیدا کری دی به منخ دزمکه خلیے

أَرْضِكَ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضِينَ شَرْقَهَا

به منخ ذ محائے قرار دزمکو دهغے دمشرق

وَعَرْبَهَا وَسَهْلَهَا وَجِبَالَهَا وَأَوْدِيَّتَهَا

اودهغے دمغرب اودهغے دهموارے حصے اودغریزے حصے او دهغے

وَطَرِيقَهَا وَعَامِرَهَا وَغَامِرَهَا إِلَى

دخوردونواو ذلارو اودهغے دآبادے حصے او دشارے حصے تر هغه

سَائِرِ مَا خَلَقْتَهُ عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ

شیزونو پورے چه تا پیدا کری دی به دے بانده اوخه چه به دے کنیے

حِصَاةٍ وَمَدْرٍ وَحَاجِرٍ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

دی ذکوت کانرونه اودلو تونه اودکانرونه ذکومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت ترورخ پورے به هره ورخ کنیے

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

زرخلیے ای الله رحمت او لیرے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ نَبِيَّ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ

محمد نبی بانده به شمار د شینکو دزمکه

مِنْ قِبَلَتِهَا وَشَرْقَهَا وَعَرْبَهَا وَسَهْلَهَا

دقبلے دهغے زنه اودمشرق دهغے نه اودمغرب دهغے نه اودهموارے دهغے نه

وَجِبَالِهَا وَأَوْدِيَّتِهَا وَأَشْجَارِهَا وَ

او ذ شریزے دهغے نه او ذخوردونو دهغے نه اوداونو دهغے نه او

ثَمَارِهَا وَأَوْرَاقِهَا وَزُرُوعِهَا وَجَمِيعِ

دميوؤدهغه نه او ذبانهو دهغه نه او دفضلونو دهغه نه او دتولو هغه خيزونونه

مَا يَخْرُجُ مِنْ تَبَاتِيهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ

چه راؤخي د شينكو دهغه نه او ذبركتونو دهغه نه دكومے ورخ نه

يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قيامت تر ورخے پورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

هره ورخ كنيے زرخلے. اے الله او رحمت او لبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

زمونبر به سردار محمد باندي به شمار دهغه چه تا پيدا كرمي دي

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَمَا

دپيريانونه او دانسانانونه او دشيطانانونه او شه چه ته

أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

پيدا كونكے نے دهغوي نه د قيامت ترورخ پورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

هره ورخ كنيے زرخلے. اے الله او رحمت او لبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ

زمونبر به سردار محمد باندي به شمار دهربرو و پسته به

فِي أَيْدِيهِمْ وَفِي وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ

بلونونو دهغوي كنيے او به مخونو دهغوي كنيے او به سرونو دهغوي كنيے

مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

دكله راسے چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قيامت ترورخ پورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى

هره ورخ كنيے زرخلے. اے الله او رحمت اولبرے به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَاتِ الطَّيْرِ

سردار زمونبر محمد باندي به شمار ذ خانگونو خوزولو دمار غانو

وَطَيْرَانَ الْجِنَّ وَالشَّيَاطِينِ مِنْ يَوْمِ

او ذالو تلو دپيريانو او دشيطانانو ذكومے ورخ نه چه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ  
تا دنیا پیدا کرے وہ د قیامت ترورخ پورے پہ ہرہ  
يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى  
ورخ کنے رخلے۔ اے اللہ او رحمت او لیرے زمونیر پہ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَبِيٍّ خَلَقْتَهَا  
سردار محمد بانڈے پہ شمار دھر غناورچہ تا پیدا کرے دے  
عَلَى جَدِيدِ أَرْضِكَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ  
پہ مخ دزمکے خیلے کہ ورکو تے وی او کہ لونے وی  
فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنْ  
پہ مشرقونو دزمکے کنے او پہ مغربونو دھے کنے دبنیاد مونہ  
أَنْسَاهَا وَجَنَاحَهَا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا  
او ڈ پیریانونہ او دھغہ غیزونونہ چہ نیشہ معلومات دھے مگر  
أَنْتَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ  
تاکہ د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے وہ د قیامت ترورخ پورے

الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ  
پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے۔ اے اللہ  
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَطَايَاهُمْ  
اور رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد بانڈے پہ شمار دقدمونو دھغوی  
عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ  
دزمکے پہ مخ بانڈے د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے وہ  
الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ  
د قیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے۔  
مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
اے اللہ او رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار  
مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ۝ وَ  
محمد بانڈے پہ شمار دھغہ چاچہ درود لیری پہ ہغہ بانڈے۔ او  
صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ  
رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد بانڈے پہ شمار دھغہ چا



لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ درود نے نہ دے لیکلے پہ ہغوی بانڈے . اور رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ

محمد بانڈے پہ شمار دشاخکو او د باران او د شینکو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ كَلْبٍ

او رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار محمد بانڈے پہ شمار دتولو

شَيْءٍ ۝ اَللّٰهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

خیزونو . اے اللہ او رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ فِي الْبَيْتِ اِذَا اَيْغَشَى ۝ وَصَلِّ

محمد بانڈے پہ شہہ کنے چہ کلہ راخوره شی اور رحمت اولییرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ اِذَا

زمونیر پہ سردار محمد بانڈے پہ ورخ کنے کلہ چہ

تَجَلَّى ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

او خلییری . اور رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار محمد بانڈے پہ

اَلْاٰخِرَةِ وَالْاٰوَّلِي ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اخرت کنے ہم او پہ دنیا کنے ہم . اور رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ شَابًا زَكِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد بانڈے چہ خوان پاکیزہ وو اور رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَّرْضِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى

محمد بانڈے چہ بوخ عمرے پسندیدہ وو اور رحمت اولییرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ

سردار زمونیر محمد بانڈے کلہ چہ ووہفہ پہ خانگو کنے

صَبِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ماشوم . اور رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار محمد بانڈے

حَتّٰى لَا يَبْقَىٰ مِنَ الصَّلٰوةِ شَيْءٌ ۝ اَللّٰهُمَّ

تو دے پورے چہ پاتے نشی د درود نہ خہ شے . اے اللہ

وَاعْطِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا اِلٰهَ مَقَامِ الْمَحْمُوْدِ

او ورکرے زمونیر سردار محمد تہ مقام محمود

الَّذِي وَعَدْتَهُ الَّذِي إِذَا قَالَ صَدَّقْتَهُ

دکرم چہ تاوعدہ کرے ہفہ سرہ ہفہ ہستی چہ کلہ نے خبرہ او کرہ نوتارے

وَإِذَا سَأَلَ أَعْطَيْتَهُ ۝ اللَّهُمَّ وَاَعْظُمُ

تصدیق او کرو او کلہ دے چہ سوال او کر دنوتاواتہ واکرہ او کبرہ امے اللہ

بُرْهَانَهُ وَشَرَفَ بِنْيَانَهُ وَأَبْلَجَ حُجَّتَهُ

اولو نے کرے دلیل دھغہ او او چتہ کرے بنا دھغہ اورو بنا نہ کرے دلیل دھغہ

وَبَيَّنَ فَضِيلَتَهُ ۝ اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ

اوظاہر کرے فضیلت دھغہ . امے اللہ او قبول کرے . شفاعت دھغہ

شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ ۝ وَاسْتَعْمَلْنَا سُنَّتَهُ

پہ بارہ دامت خہل کہنے . او مونیرہ روان کرے پہ طریقہ دھغوی

وَتَوَقَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَأَحْشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

اومونیرہ وفات کرے پہ ملت دھغوی اومونیرہ پاسوے پہ دلہ دھغوی کہنے

وَتَحْتَ لُؤَائِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُقَقَائِهِ

او لاندے دجھنہ دھغوی او مونیرہ او مگر خوے ملگری دھغوی .

وَأُورِدْنَا حَوْضَهُ وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ وَ

اومونیرہ ورو لے دھغوی حوض تہ او یہ مونیرہ شکل او کرے دھغوی دجام نہ او

انْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ أَمِينَ ۝ وَ

مونیرتہ فائدہ را کرے دھغوی پہ محبت سرہ . امے اللہ دادعامو قبولہ کرے . او

أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا

سوال کرم لتانہ ستایہ ہفہ نو مونو سرہ چہ مارا ہلے کنے پہ ہفہ سرہ

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

چہ رحمت اولیرہ ز مونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دھغے چہ

وَصَفْتُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ

صفت نے کرے دے ما او یہ مقدار دھغے چہ نہ دے معلوم علم دھغے مگر تانہ

وَأَنْ تَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي

اوداچہ رحم او کرے پہ ماہاندے او توبہ مے قبولہ کرے او عافیت را لہ را کرے

مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي

دتولو بلاگانو نہ او غمونونہ او داچہ بخینہ او کبرے ماتہ

وَلَوْ أَلِدَيْ وَتَرَحَّمِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

او خمامور پلارته اورحم و کره په مومنانوسر و او په مومنانو بنحو بانده

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الرَّحَبَاءِ مِنْهُمْ

او په مسلمانانوسر و او په مسلمانانو بنحو بانده خوک چه ژوندي دي په

وَالْأَمْوَاتِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ

دوی کے او خوک چه مره دي او دا چه او بخینے بنده خپل فلان

ابْنِ فُلَانٍ الْمُدْنِبِ الْخَاطِئِ الضَّعِيفِ

خونے ذفلائي چه گنهکار دے 'خطا کار دے' کمزور دے او دا چه نظر

وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَنُورٌ رَّحِيمٌ

درحمت او کره په ده بانده بیشکه ته ډیر بخینو که ډیر مهربان ئے

اللَّهُمَّ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

یا الله دعامة قبوله کره اے دعالمونو پروردگار ه . فرمائيلي دي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

رسول الله صلي الله عليه وسلم چا چه

قَرَأَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ

اولو ستلو دا درور يوخل نو او به ليكي الله تعالي

اللَّهُ لَهُ ثَوَابٌ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَثَوَابٌ

هغه دياره ثواب د قبول شوي حج او ثواب دهغه چا

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِّنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ

چه آزاد کرې غلام د اولاد د اسماعيل

عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا

عليه السلام نه پس فرمائي الله تعالي چه دے

مَلِكِي هَذَا عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِي

فرشتو دا يو بنده دے حما د بندگانونه چه زيات درود

أَكْثَرَ الصَّلَاةِ عَلَى حَبِيبِي مُحَمَّدٍ

ئے ويلے دے حمايه حبيب محمد بانده پس حما دقسم وي په خپل

قَوْعَرَّتِي وَجَلَّالِي وَجُودِي وَمَجْدِي

عزت او په خپل جلال او په خپل سخاوت او په خپلے بزرگني بانده .

وَأَرْفَعُنِي لِأَعْظَمِيَّةِ بِكُلِّ حَرْفٍ صَلَّ

اوپه خپل اوچوالي چه زه به ضرور وړ کړم ده ته په عوض دهر حرف باندي

بِهِ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَلِيَأْتِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

چه ده درو دليکله دې به هغه سره يو محل په جنت کښه اوده به راځي ماله

تَحْتَ لُؤَاءِ الْحَمْدِ نُورُ وَجْهِهِ كَالْقَمَرِ

دقيامت په ورځ دحمد جهنله دلاندې دده دمخ رنر ابه په شان د خوار لسمه

لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَفَّهُ فِي كَفِّ جَيْبِي مُحَمَّدٍ

شبه د سپوږمۍ وي او دده لاس به څما د حبيب محمد په لاس کښ وي

هَذَا الْمَنْ قَالَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ

دا فضيلت هغه چا دپاره دې چه دا اوواني دهره جمع په ورځ

لَهُ هَذَا الْفَضْلُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

هغه د پاره دا فضيلت دې، او الله دلورنې فضل خاوند دې

وَفِي رِوَايَةٍ ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ

اوپه پوروايت کښه دي اے الله زه سوال کوم تانه په وسيله دهغه چا

مَا حَمَلَ كُرْسِيَّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ

چه او چته کږه تې ده کرسی ستا ستا دعظمت نه

وَقُدْرَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبِهَائِكَ وَ

او ستا دقدرت نه او ستا دجلال نه او ستا د رنرانه او

سُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْمَخْزُونِ

ستا د بادشاهۍ نه او په وسيله دنوم ستا چه خزانه شوه

الْمَكْنُونِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَ

او پټ شوه دې هغه چه تانوم ايښه دې په ذات خپل او

أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَأَسْتَأْثَرْتُ بِهِ

تا نازل کړه دې په خپل کتاب کښه او تا اختيار کړه دې

فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ إِنَّ تَصَلِّيَ عَلَيَّ

په علم غيب کښه خپل خان سره چه رحمت او ليرې به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ

سردار زمونږ محمد باندي چه ستا بنده او رسول دې او

أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ

سوال کوم تانہ ستادھغہ نوم پہ وسیلے سرہ چہ کلہ تہ راویلے شے پہ ہغے

أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ

سرہ نوقبولوالے کومے او کلہ چہ سوال او کرے شی تانہ پہ ہغے سرہ نور کرہ

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى

کومے او سوال کوم تانہ ستادھغہ نوم پہ وسیلے سرہ چہ تا کینودو پہ

الْبَيْلِ فَأَظْلَمَ

شہہ باندے نو تبارہ شولہ او پہ ورخ باندے نو رنہا شولہ

وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ

او پہ آسمانونو باندے نو قائم شول او پہ

الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ

زمکہ باندے نو قرار ئے او نیوز او پہ غرونو باندے

فَرَسَتْ

نو مضبوط شول او پہ سختہ زمکہ باندے نو نرمہ شولہ

وَعَلَى مَاءِ السَّمَاءِ فَسَكَبَتْ

او پہ اوبود آسمان باندے نور اتونے شوے او پہ وریخ باندے نواو وریدہ او

فَأَمْطَرَتْ

سوال کوم تانہ پہ ہغہ دعاسرہ چہ سوال کرے ووتانہ پہ ہغے سرہ زمونیرہ

مُحَمَّدٌ نَبِيِّكَ

سردار محمد چہ ستا نبی دے او سوال کوم تانہ پہ ہغے سرہ چہ سوال کرے ووتانہ

سَيِّدِنَا أَدَمُ نَبِيِّكَ

پہ ہغے سرہ زمونیرہ سردار آدم چہ ستا نبی ووا سوال کوم تانہ پہ ہغے سرہ

بِهِ أَنْبِيَاءُ وَكَرُسُلِكَ وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبُونَ

چہ سوال کرے ووتانہ پہ ہغے سرہ نبیانو ستا اور سولانوستا او مقربو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

فرشتو ستاد اللہ رحمت دوی پہ ہغوی تہولو باندے او سوال کوم تانہ

بِمَا سَأَلْتُكَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

پہ ہغے سرہ چہ سوال کرے ووتانہ پہ ہغے سرہ ستا تہولو تابعدارو بندگانو

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

چه ته رحمت او ليرے زمونير به سردار محمد بانديے او په آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ

د سردار زمونير محمد بانديے به شمار دهغه مخلوق چه تا پيدا كړے دے

قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ

مخكښے ددے نه چه اسمان جوړ كړے شوم وو او زمكه

مُطَيَّبَةً وَالْجِبَالُ مَرْسِيَّةً وَالْعَيُونُ

غورولے شوم وه او غرونه محكم شوي وو او چينه

مَنْفَجِرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مِنْهُمْ رَوَّانَةٌ وَالشَّمْسُ

جاري شوم وے او نهرونه روان كړے شوي وو او نمر

مُضْحِيَّةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيًّا وَالْكَوَاكِبُ مُنِيرَةٌ

خليدے وو او سپوږمې روښانه شوم وه او سعوري خليلدي وو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے الله رحمت او ليرے زمونير به سردار محمد بانديے او زمونير

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عَلَمِكَ ۝ وَ

د سردار محمد په آل بانديے په شمار د علم ستا او

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

رحمت او ليرے زمونير به سردار محمد بانديے او په آل د سردار زمونير

مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَحْلِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

محمد بانديے په شمار د حلم ستا. او رحمت او ليرے زمونير به سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد بانديے او زمونير د سردار محمد په آل بانديے په شمار

مَا أَحْصَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ مِنْ عَلَمِكَ

دهغه چه راكبر كړي دي لوح محفوظ د علم ستانه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

او رحمت او ليرے زمونير به سردار محمد بانديے او په

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ

آل د سردار زمونير محمد بانديے په شمار دهغه چه جاري شوم دے

الْقَلَمُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ عِنْدَكَ ○ وَ

قلم پہ لوح محفوظ کتبے ستا پہ نزد او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رحمت اولیے زمونیرہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیرہ

مُحَمَّدٍ قُلِّ سَمَوَاتِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے پہ ذکوالی د آسمانوں اور رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُلِّ

محمد باندے او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی

أَرْضِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د زمکے ستا او رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ مَا أَنْتَ

او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی د ہفتخہ

خَالِقُهُ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

چہ تہ نے پیدا کونکے نے ذکومے ورخے نہ چہ تہ دنیا پیدا کرے دہ ترورخ

الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د قیامت پورے اے اللہ رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ صُفُوفِ

او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ شمار د صفوںو

الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِهِمْ وَتَقْدِيرِهِمْ

د فرشتو او دہغوی د تسبیح او دہغوی د تقدیس

وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَمْجِيدِهِمْ وَتَكْبِيرِهِمْ وَ

او دہغوی د تحمید او دہغوی د تمجید او دہغوی د تکبیر او

تَهْلِيلِهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

دہغوی د تہلیل د کومے ورخ نہ چہ تہ دنیا پیدا کرے دہ تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ د قیامت پورے اے اللہ رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ شمار

السَّحَابِ لُجَارِيَّةٍ وَالرِّيَّاحِ الدَّارِيَّةِ

دوربخو منابو وهونکو او دھواکانو چلیدونکو

○ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخے نہ چه تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اورحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندمے او په

أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ

آل د سردار زمونیر محمد باندمے په شمار دهر شاخکی

تَقْطُرُ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ وَمَا

چه را پروخی ستا د آسمانونونه ستا زمکے طرفته او هغه چه

تَقْطُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

راخاشی د قیامت ترورخ پورے. ایے الله رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا

زمونیر په سردار محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَّاحُ وَعَدَدَ

محمد باندمے په شمار د هغه چه لیري هواکانے او په شمار د هغه

مَا تَحَرَّكَتِ الْأَشْجَارُ وَالْأَوْراقُ وَ

چه حرکت کوي اونے او بانرے او

الزُّرُوعُ وَجَمِيعَ مَا خَلَقْتَ فِي قَرَارِ

فصلونه او تول هغه خه چه تا پیدا کړي دي په قرار

الْحِفْظِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

د حفظ کنې د کومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده دنیا ترورخ

الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د قیامت پورے. ایے الله رحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندمے


وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے په شمار د شاخکو

وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

اوبارانونو او شینکود کومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده





اللَّهُ نَبِيًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

دنیاد قیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ مِنْ

محمد باندے پہ شمار دستورو پہ آسمان کنے دکومے

يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

ورخ نہ چہ تا پیدا کرے ده دنیا د قیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي

د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغے چہ تا پیدا کرے دی پہ

بِحَارِكِ السَّبْعَةِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا

پہ خپلو اوو سمندر ونو کنے دکومو علم چہ هیجا ته نیشته سوا

أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

دستانه اوپہ شمار دھغے چہ ته نے پیدا کونکے نے دقیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د شکر او کوت کانرو

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ۝

پہ مشرقونو د زمکے کنے او پہ معزبونو دھغے کنے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى


اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغے چہ تا پیدا کرے دی

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَمَا أَنْتَ خَالِقَةٌ

د پیریانو او انسانانونه او کوم چہ ته پیدا کونکے نے



إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دقیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندهے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندهے

عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَالْحَاظِهِمْ

پہ شمار دسہ گانو دھغوی او ذ الفاظو دھغوی او دکتلو دھغوی

مَنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کھے دہ دقیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندهے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجَنِّ

آل د سردار زمونیر محمد باندهے پہ شمار د آلوتلول د پیرانو

وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

او د ملائکو د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کھے دہ تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ د قیامت۔ اے اللہ رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندهے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندهے پہ شمار

الطُّيُورِ وَالْهَوَامِّ وَعَدَدِ الْوُحُوشِ وَ

دسارغانو او د زمکے د چینجو او پہ شمار د خنکلی ٹخاورو او

الْأَكَامِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ۝

پہ شمار د دیرکو د زمکے پہ مشرقونو کنبے او پہ مغربونو کنبے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندهے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَخْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ

آل د سردار زمونیر محمد باندهے پہ شمار د ژوندو او د مرو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار محمد باندهے او پہ



اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَظْلَمَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغه خیزونو چه تیاره شوه ده

عَلَيْهِ الْبَلُّ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ مِنْ

وربانده شهبه او روپانه شوه ده وربانده ورخ دکومے

يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

ورخ نه چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قیامت ترورخ پورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او لیبرے زمونیر په سردار محمد باندے او په

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَّمْشِي

آل د سردار زمونیر محمد باندے په شمار دھغه چاچه گرخی

عَلَى رَجُلَيْنِ وَمَنْ يَّمْشِي عَلَى اَرْبَعٍ مِنْ

په دوؤ خپوبانده او خوک چه گرخی په څلورو خپو دکومے

يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

ورخ نه چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قیامت ترورخ پورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او لیبرے زمونیر په سردار محمد باندے او په آل

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ

د سردار زمونیر محمد باندے په شمار دھغه چاچه درودنے لیبرے وی په هغه

مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ

بانده د پیریانو او انسانانوسه او د ملائکونو دکومے ورخ نه

يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قیامت ترورخ پورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى


اے الله رحمت او لیبرے زمونیر په سردار محمد باندے او په

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ

آل د سردار زمونیر محمد باندے په شمار دھغه چاچه درودلیبرے په هغوی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بانده اے الله رحمت او لیبرے زمونیر په سردار محمد باندے او په



إِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ  
 عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَجِبُ أَنْ  
 يُصَلَّى عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
 مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا  
 يَسْتَبِغُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل دسردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھفہ چاچہ درود نے نہ دے لیکلے  
 پہ هغوی باندے. اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے  
 او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکھ چہ واجب دی  
 درود لیکل پہ هغوی باندے. اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار  
 محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے خنکھ چہ  
 بنائیری درود لیکل پہ هغوی باندے. اے اللہ رحمت اولیرے پہ  
 سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِّنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ○  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي  
 الْأَوَّلِينَ ○ وَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 فِي الْآخِرِينَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
 مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَائِكَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○  
 مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○

تر دے چہ باقی باتے نشی هیک خیز د درود نہ پہ هغوی باندے اے اللہ  
 رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ رومینو خلقو کنے  
 اور رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ روستنو خلقو  
 کنے. اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے داوحت  
 مجلس فرشتو کنے د قیامت ترورخ پورے شہ چہ اللہ او غواری هفہ  
 کبیری نیشته دے قوت مگر پہ امداد اللہ سرہ چہ او چت او لورے دے

الْحَزْبُ السَّادِسُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ

شہرم حزب دخالی د ورخے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لپیے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے او ورکھے ہفہ تہ وسیلہ

وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ

او فضیلت او درجہ او چتہ او وے رسوم

مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ

مقام محمود تہ دکوم چہ ورسرہ تاوعده کرے دہ بیشکہ

لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ اللَّهُمَّ عَظِّم

تہ دوعدے خلاف نہ کوے اے اللہ او چت کرے

شَانَهُ وَبَيِّنْ بُرْهَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ

شان دھغوی او ظاہر کرے دلیل دھغوی اور وبنانہ کرے حجت دھغوی

وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي

او ظاہر کرے فضیلت دھغوی او قبول کرے شفاعت دھغوی پہ

أُمَّتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا لِسُنَّتِهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

امت دھغوی کنے او مونیر عمل کونکی کرے پہ سنت دھغوی اے

وَيَا رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ

رب العالمینہ او اے دعرش عظیم رہہ اے اللہ

يَا رَبِّ احْشُرْنَا فِي زَمْرَتِهِ وَتَحْتَ

اے رہہ پاسوم مونیرہ پہ ذلہ دھغوی کنے او لاندے د جھنہے دھغوی

لِوَالِيهِ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ وَانْفَعْنَا بِحَبَّتِهِ

او او حکوم پہ مونیرہ دجام دھغوی نہ او نفع را کرے پہ محبت دھغوی

أَمِينِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ

سرہ دا دعا موقبولہ کرے اے رب العالمینہ اے اللہ اے پروردگارہ

بَلِّغْهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ وَأَجْزِهِ عَنَّا

اور سوم ہغوی تہ زمونیر دطرفہ غورہ سلام او بدلہ ورکھے زمونیر دطرفہ

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ أُمَّتِهِ

غوره دهغه نه چه تا بدله ور کرے ده په هغه سره یونې ته دخپل امت

يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ إِنِّي

د طرفه اے رب العالمینہ اے الله پروردگارہ بیشک زه سوال کوم

أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ

تانه چه بخښنه راته او کرے اور رحم راباندے او کرے او توبه قبوله کرے

عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ

خما او عافیت راله راکرے دتولو بلاکانونه او آفتونونه

الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ وَالنَّازِلِ مِنَ

کوم چه راوځي دزمکه نه او کوم چه راکوزيزي

السَّمَاءِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

د آسمان نه بیشک ته په هر څيز باندے قدرت لرونکے ئے

بِرَحْمَتِكَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

په خپل رحمت سره او داچه او بخښے مومنان سړي او مومنانې ښځه

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

او مسلمانان سړي او مسلمانانې ښځه کوم چه ژوندي دي ددوی نه

وَالْأَمْوَاتِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَرْوَاحِهِ

او کوم چه مړه دي او راضي دشي الله دپاکو بښانو

الطَّاهِرَاتِ أَهْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ

د پيغمبرنه چه ميندے دمومنانو دي او راضي دشي الله

اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَاءِ أُمَّةِ الْهُدَى

د هغوی د اصحابو کرامونه کوم چه امامان دهدايت دي

وَمَصَابِيحِ الدُّنْيَا وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِ

او دپوه ددنیا دي او دتا بعينونه او د تبع

التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

تابعينونه دپاره دهغوی سره احسان نه د بدلے ورځ پورے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

او ټول تعريفونه ثابت دي الله لره چه پروردگار د عالمونودے

### اِبْتِدَاءُ التَّلَاثِ التَّالِثِ

ابتدا      د دریم      ثلث

اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ

یا - الله پروردگار دروحو نو او بدنونو

الْبَالِيَةِ أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الْأَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ

کوم چه وراسته شوي دي سوال کوم تانه په طاعت دروحو نوسره چه رجوع

إِلَى أَجْسَادِهَا وَبِطَاعَةِ الْأَجْسَادِ الْمَلْتَمَةِ

کونکي دي خپلو بدنونو ته او په طاعت د بدنونو نوسره چه يوځانې شوي دي

بِعُرُوقِهَا وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيهِمْ وَ

خپلورگونوسره او ستا په کلماتوسره کوم چه جاري دي په دوی کښې او

أَخْذِكَ الْحَقِّ مِنْهُمْ وَالْخَلْقِ بَيْنَ

په وسيله د حق ستا له دوی نه او مخلوقات چه ستا په

يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصَلِّ قَضَائِكَ وَ

وراندي دي انتظار کوي ستا د حکم فيصلې ته او

يَرْجُونَ رَحْمَتَكَ وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ

اميدلري درحمت ستا او يريروي د عذاب ستانه

أَنْ تَجْعَلَ التُّورَفِي بَصْرِي وَذِكْرَكَ

چه ته واچوي نور شما په سترگو کښې او ذکر کول ستا

بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي وَعَمَلًا

د شپې او دورځ شما په ژبه او عمل

صَالِحًا فَارْزُقْنِي ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نيک راته نصيب کړې. اے الله رحمت او ليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

سردار زمونږ محمد باندې څنگه چه تارحمت ليكلې دې په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

سردار زمونږ ابراهيم باندې او برکت او ليرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ ۝

محمد باندې څنگه چه تارکت ليكلې دې زمونږ په سردار ابراهيم باندې

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ

اے اللہ نازل کرے رحمتوںہ خیل او برکتوںہ خیل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے او پہ آل دسردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمدؐ باندے خنکے چہ تا نازل کرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیمؑ

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

او پہ آل دسردار زمونیر ابراہیمؑ باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے

مَجِيدٌ ۞ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دبزرگی خاوندے . او برکت او لیرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

او پہ آل دسردار زمونیر محمدؐ باندے خنکے چہ تا برکت لیکلے دے

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر ابراہیمؑ باندے او پہ آل دسردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۞ اللَّهُمَّ

ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے دتریفونو خاوندے . اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے کوم چہ ستابندے دے او

رَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ

ستا رسول دے او رحمت او لیرے پہ مومنانو سرو او

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

پہ مومنانو بنحو او پہ مسلمانانو سرو او مسلمانانو بنحو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے او

عَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ

پہ آل دھغہ پہ شمار دھغے چہ احاطہ کرے دہ ورباندے علم ستا او

أَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدْتُ بِهِ مَلِيكَتِكَ

راکیر کری دی کتاب ستا او گواہی کرے دہ پہ ہغے سرہ فرشتو ستا



صَلَاةً دَائِمَةً تَذُومُ يَدَاؤِمُكَ اللَّهُ

رحمت دهمیشه والی چه همیشه وی سره دهمیشه والی دملک دالله

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْعِظَامِ

ای الله زه سوال کوم تا نه په وسیله دلویو نومونو ستا

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَلَا بِأَسْمَاءِ

کوم چه معلوم دی ماته او کوم چه راته نه دی معلوم او په وسیله دهغه نومونو

الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

چه ایخی دی تا په خپل ذات باندی کوم چه ماته معلوم دی

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَن تَصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

او کوم چه ماته نه دی معلوم داچه رحمت اولیری په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ

محمد باندی کوم چه ستانده دی او ستا رسول دی

عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ

په شمار دهغه چه تا پیدا کړی دی مخکینی ددی نه چه وو

السَّمَاءِ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضِ مَدْحِيَّةً وَ

اسمان جوړشوی او زمکه غوړولې شوی او

الْجِبَالِ مَرْسِيَّةً وَالْعِيُونَ مُنْفَجِرَةً وَ

غرونه محکم شوی او چیغی جاری کېدی شوی او

الْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةً

بهرونه روان کېدی شوی او نمر خپلیدی

وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَبِيرَةً

او سپوږمې رنرې شوی او ستوری روښانه شوی

وَالْبِحَارُ مُجْرِيَةً وَالْأَشْجَارُ مُثْمِرَةً

او دریا بونه جاری شوی او اوانی میوه دارې شوی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

ای الله رحمت او لیری په سردار زمونیر محمد باندی په شمار

عَلَيْكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دعلم ستا او رحمت او لیری په سردار زمونیر محمد باندی

عَدَّةٌ حَلِيمَةٌ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

په شمار دحلم ستا او رحمت او ليرې په سردار زمونې

مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ كَلِمَاتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندې په شمار دكلماتو ستا او رحمت او ليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ دِنِعْمَتِكَ ۝ وَ

سردار زمونې محمد باندې په شمار د نعمت ستا او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ فَضْلِكَ

رحمت او ليرې په سردار زمونې محمد باندې په شمار د فضل ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ جُودِكَ

اورحمت اوليرې په سردار زمونې محمد باندې په شمار داسمانونو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ سَمَوَاتِكَ

اورحمت اوليرې په سردار زمونې محمد باندې په شمار د زمكو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ اَرْضِكَ

اورحمت اوليرې په سردار زمونې محمد باندې په شمار د زمكو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ مَا

او رحمت او ليرې په سردار زمونې محمد باندې په شمار د شمار د

خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ

مخلوق ستا په اوو اسمانونو كښې د ملائكو ستا نه او رحمت او

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ مَا

ليرې په سردار زمونې محمد باندې په شمار د هغه مخلوق چه

خَلَقْتَ فِي اَرْضِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

تاپيدا كړې دې په زمكه خپله كښې دپيرانو او بنيادمونه او د دوى

وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِمَا

نه سوا دڅنگلي خنا و رونه او دمارغانو نه او سوا د دوى نه اورحمت

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ مَا جَرَى

اوليرې په سردار زمونې محمد باندې په شمار دهغه چه جاري شوه دې

بِهِ الْقَلَمُ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ وَمَا يَجْرِي بِهِ

په هغه سره قلم په علم غيب ستا كښې او په كوم څه چه به جاري كيرې

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د قیامت ترورخے پورے اور رحمت اولیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے

عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ شمار د شاخکو او دباران او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ

محمد باندے پہ شمار دہغه چاچہ ستا ثنا وانی او ستاشکر کوی

وَيُهَيِّلُكَ وَيَمْجِدُّكَ وَيَشْهَدُ أَنَّكَ

او ستا تهلیل وانی او ستا لونی بیانوی او کواهی ورکوی چہ بیشکہ

أَنْتَ اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

تہ اللہ ہے اور رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار

مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ وَ

دہغه چہ تا درود لیبرے دے پہ ہغه باندے او فرشتو ستا اور رحمت

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى

اولیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دہغه چاچہ درود لیکلے دے

عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ ہغوی باندے دمخلوق ستا نہ او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ

محمد باندے پہ شمار دہغه چاچہ درود نے نہ دے لیکلے پہ ہغوی باندے

خَلْقِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ستاد مخلوق نہ او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے

عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى ○ وَ

پہ شمار دغرونو او د شکو او د کوت کانرو او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّجَرِ وَ

رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار داونو او

أَوْرَاقِهَا وَالْمَدْرِ وَأَثْقَالِهَا ○ وَصَلِّ عَلَى

دہغه دپانرو او د لوتو او دہغه د بوجونو اور رحمت او لیبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا

سردار زمونیرہ محمد باندے پہ شمار دھر کال او ہغه چہ

تَخْلُقُ فِيهَا وَمَا يَمُوتُ فِيهَا ○ وَصَلِّ

چه ته نه پيدا کوم په دمه کنه او هغه چه مري په دمه کنه او رحمت

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ كُلَّ

اوليره په سردار زمونږ محمد باندې په شمار دهغه چاچه ته نه پيدا کوم

يَوْمٍ ○ وَمَا يَمُوتُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

هره ورځ او څه چه مري په دمه کنه د قيامت تر ورځ پورې

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

او رحمت او ليره په سردار زمونږ محمد باندې په شمار

السَّحَابِ بِجَارِيَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

د روانو وريځو په مينځ د آسمان او د زمکه

وَمَا تَطْرُقُ مِنَ الْمِيَاهِ ○ وَصَلِّ عَلَى

او په شمار دهغه چه راوړيري د باران نه او رحمت او ليره په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيحِ الْمُسَخَّرَاتِ

سردار زمونږ محمد باندې په شمار د با دونو چه فرمان بردار دي

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ○

په مشرقونو د زمکه کنه او دهغه په مغربونو کنه او

جَوْفِهَا وَقِبْلَتَيْهَا ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مغه په خيسته کنه او دهغه په قبله کنه او رحمت او ليره زمونږ په

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَجُومِ السَّمَاءِ ○ وَصَلِّ

سردار محمد باندې په شمار د ستورو د آسمان او رحمت او ليره

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي

زمونږ په سردار محمد باندې په شمار د هغه چه تا پيدا کړي دي په

بِحَارِكِ مِنَ الْحَيَاتَانِ وَالذَّوَابِّ وَالْمِيَاهِ

د ريبونو خپلو کنه د کبانو نه او د چار پايانو نه او داوبو نه

وَالرَّمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او د شگونه او سوا دده نه او رحمت او ليره زمونږ په سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ وَالْحِطَّةِ ○ وَ

محمد باندې په شمار د شينکو او دکوت کانډو او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ التَّمَلُّكِ

رحمت او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار د میرو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ

او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د ابو

الْعَذَابَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خوپرو. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمُلْحَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ شمار د مالکینو ابو. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ

محمد باندے پہ شمار د نعمتونو سنا پہ تول مخلوق خپل او رحمت

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِقْمَتِكَ

اولیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د ناراضگی او د عذاب

وَعَذَابِكَ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خپل پہ هغه چا باندے چه کفر نے کرے دے زمونیر پہ سردار محمد باندے

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلِّ عَلَى

صلی الله علیه وسلم. او رحمت او لیبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا

سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د همیشه والی د دنیا

وَالْآخِرَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

او د آخرت. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي الْجَنَّةِ

پہ شمار د هغه چه تر خوبورے وی مخلوق په جنت کنے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د هغه

دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي النَّارِ وَصَلِّ

چه تر خوبورے وی مخلوق په دوزخ کنے او رحمت او لیبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا تُجِبُّهُ

زمونیر پہ سردار محمد باندے په مقدار د هغه چه ته نے خوبورے

ذکر آل نبوت ۳۰۴ الحزب الثالث

وَتَرْضَاهُ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اوتہ پرے راضی کیجئے۔ اور حمت اولیوں پہ سردار زموں پر محمدؐ باندھے

عَلَى قَدْرِ مَا يُحِبُّكَ وَيَرْضَاكَ ○ وَ

پہ مقدار دہغہ چاچہ محبت کوی تاسرہ او راضی ساتی تا او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبَدًا ○

رحمت او لیوں پہ سردار زموں پر محمدؐ باندھے ابدالا بادہ پورے

وَأَنْزِلْهُ الْمُنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ ○

اونازل کرے ہغہ لہرہ پہ مقربہ رتبہ کنیے خچل خان سرہ او

أَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ ○

دیکرے ورلہ وسیلہ او فضیلت او شفاعت

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ ○ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ

او درجہ او چنہ او وے لیوں مقام

الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَنَّهُ ○ إِنَّكَ لَا

محمودتہ دکوم چہ ورسرہ تا وعدہ کرے دہ بیشکہ تہ نہ کوئے خلاف

ذکر آل نبوت ۳۰۵ الحزب الثالث

تُخَلِّفُ الْمِبْعَادَ ○ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

دو علمے۔ اے اللہ زہ تانہ سوال کوم

بِأَنَّكَ مَا لِكُنِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ ○ وَ

بیشکہ تہ خما مالک نے او خما سردار نے او خما مولانے او

ثِقَتِي ○ وَرَجَائِي ○ أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ

خما تکیہ گاہ نے او خما امید نے زہ سوال کوم تانہ پہ حرمت دمیاشتے

الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ ○ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

دعزت او ذبشار دعزت او د مشعرا لحرام (مزدلفہ)

وَقَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ أَنْ تَهَبَ

او پہ حرمت د قبر د نبی ستا علیہ السلام چہ را نصیب کرے

لِي مِنْ الْخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ ○ إِلَّا أَنْتَ

ماتہ د خیرنہ ہغہ چہ د ہغے علم نیشتہ مکر تانہ

وَتَصْرِفَ عَنِّي مِنَ السُّوءِ مَا لَا يَعْلَمُ

او واروں خمانہ ہغہ بدوالے چہ دہغے علم نیشتہ

عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ ۝ اللَّهُمَّ يَا مَنْ وَهَبَ

مکرتاته . اے اللہ ! اے ہفہ ذاتہ چہ نصیب دکرو

لِسَيِّدِنَا آدَمَ سَيِّدِنَا شَيْثَ ۝ وَلِسَيِّدِنَا

زمونیر سردار آدم تہ شیث ، او زمونیر سردار

إِبْرَاهِيمَ سَيِّدِنَا إِسْمَاعِيلَ وَسَيِّدِنَا إِسْحٰقَ

ابراہیم تہ دنصیب کرو حضرت اسماعیل او حضرت اسحاق

وَرَدَّ سَيِّدِنَا يُوْسُفَ عَلٰی سَيِّدِنَا يَعْقُوْبَ

او واپس دکرو زمونیر سردار یوسف حضرت یعقوب تہ

وَيَا مَنْ كَشَفَ الْبَلَاءَ عَنْ سَيِّدِنَا

او اے ہفہ ذاتہ چہ لرے دکرو مصیبت د سردار زمونیر

أَيُّوْبَ ۝ وَيَا مَنْ رَدَّ سَيِّدِنَا مُوسٰى

ایوب او اے ہفہ ذاتہ چہ واپس دکرو زمونیر سردار موسیٰ

إِلَىٰ أُمِّهِ وَيَا زَايِدَ سَيِّدِنَا الْخَضِرَ فِي

خیلے مورثہ او اے زیا تونکیہ د حضرت خضر تہ

عِلْمِهِ ۝ وَيَا مَنْ وَهَبَ لِسَيِّدِنَا دَاوُدَ

بہ علم دہفہ کننے او اے ہفہ ذاتہ چہ ورد دکرو زمونیر سردار داؤد تہ

سَيِّدِنَا سَلِيْمَانَ ۝ وَلِسَيِّدِنَا زَكَرِيَّا سَيِّدِنَا

زمونیر سردار سلیمان او زمونیر سردار زکریا تہ زمونیر سردار

يَحْيٰى ۝ وَلِسَيِّدِنَا مَرْيَمَ سَيِّدِنَا عِيْسٰى

یحییٰ ، او زمونیر سردار بی بی مریم تہ زمونیر سردار عیسیٰ

وَيَا حَافِظَ ابْنَةِ سَيِّدِنَا شَعِيْبَ اَسْأَلُكَ

او اے ساتندونکیہ دلور د حضرت شعب ، زہ سوال کوم تانہ

أَنْ تُصَلِّيَ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

چہ رحمت او لیرے زمونیر بہ سردار محمد باندرے او بہ

جَمِيْعِ النَّبِيّينَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَيَا مَنْ

تولو نیانو او رسولا نو باندرے ، او اے ہفہ ذاتہ چہ

وَهَبَ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ورد دکرو زمونیر سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ

وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

شفاعت او بخشنے مانتہ گناہوں نہ خما او پت کرے عیبوں خما

أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ لِي عُيُوبِي

داچہ او بخشنے مانتہ گناہوں نہ خما او پت کرے عیبوں خما

كُلِّهَا وَتُجِيبَ رِيَّ مِنَ النَّارِ وَتُوجِبَ

تبول او پناہ رالہ راکرے ڈھورنہ او واجبہ کرے

لِي رِضْوَانِكَ وَأَمَانِكَ وَغُفْرَانِكَ وَ

مادپارہ رضامنڈی خپلہ او امان خپل او بخشنہ خپلہ او

إِحْسَانِكَ وَتُمَتِّعْنِي فِي جَنَّتِكَ مَعَ

احسان خپل او نفع مندم کرے بہ جنت خپل کنے سرہ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

دہغہ خلقر چہ تا ورباندے انعام کرے دے دیپغمبر انونہ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

او صدیقانونہ او شہیدانونہ او صالحانونہ

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللَّهُ

بیشکہ تہ بہ ہر شیز قدرت لرونکے نے . او رحمت داللہ دوی

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا زَجَجْتَ

زہونیزہ سردار محمد بانڈے او بہ آل دہغہ ترخوبورے چہ راپورتہ کوی

الرِّيَّاحِ سَحَابًا رُكَا مًا وَذَاقَ كُلُّ ذِي

ہواگانے ورنحے گنڈے او شکی ہر صاحب

رُوحٍ حَمَامًا وَأَوْصَلَ السَّلَامَ لِأَهْلِ

دروح مرگ لہرہ او او رسوے سلام ہغہ خلقوتہ چہ

السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا

دسلام اہل دی بہ دار السلام کنے چہ ہغہ سلام دزونداو دسلامیتا دعوی


اللَّهُمَّ أَفِرِدْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلَا

اے اللہ ماخقلہ کر ہغہ خہ دیارہ جاتازہ پیدا کر دے یم ہغے دیارہ اومسحرومہ کرے

تَشْعَلْنِي بِمَا تَكَلَّفْتَنِي بِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي

مشغول مہ کرے بہ ہغہ خہ کنے چہ تکفیل نی دہغہ مارہ بہ ہغہ سرہ اومسحرومہ کرے





وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا

حال داچہ زہ سوال کوم لتانہ، او مالہ عذاب مہ راکومے حال داچہ

أَسْتَغْفِرُكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

زہ بخیننہ غوارم تانہ، درے خل داوانی، اے اللہ رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ۝

زمونیر پہ سردار محمد باندے اودھفوی پہ آل باندے او سلام

اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ

باللہ زہ سوال کول لتانہ او متوجہ کیرم ستا طرفتہ

مُحِبِّبِكَ الْمُصْطَفَىٰ عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنَا

پہ وسیلے دحبیب ستا چہ غورہ کرے شومے درے ستا پہ نزدائے حبیبہ زمونیر

يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ

اے سردارہ زمونیر محمد مونی و وسیلہ نیسو پتا سرہ پہ طرف

إِلَىٰ رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيمِ

درب ستا پس شفاعت او کرے زمونیر دبارہ دعظیم مولیٰ پہ و باندے

يَا نِعْمَ الرَّسُولَ الظَّاهِرُ ۝ اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ

اے بنکلیہ پاکہ رسولہ، اے اللہ شفاعت قبول کرے دھغے زمونیر

فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ وَاجْعَلْنَا

دبارہ پہ طفیل دمترے دھغے تاسرہ درے خل داوانی، او او گر خومے مونیہ

مِنْ خَيْرِ الْمَصْلُوبِينَ وَالْمَسْلُوبِينَ عَلَيْهِ ۝

دغورہ درود او سلام لیگونکو نہ پہ ہغہ باندے

وَمِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ

او د غورہ مقربینو نہ ہغہ سرہ او دورتلونکونہ

عَلَيْهِ وَمِنْ آخِيَارِ الْمُجِيبِينَ فِيهِ

پہ ہغہ باندے او دغورہ محبت کونکونہ ہغہ سرہ

وَالْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ ۝ وَقَرِّحْنَا بِهِ

او د محبوبانوںہ پہ نزد دھغہ، او خوشالہ کرے مونیہ ہغہ سرہ

فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ ۝ وَاجْعَلْهُ لَنَا

پہ میدان د قیامت کنے، او او گر خومے ہغہ مونیہ دبارہ

دَلِيلًا إِلَى جَنَّةِ التَّعْوِيرِ بِكَامُونَةٍ وَلَا

دليل دنعمتو نو جنت طرفته بغير ذمحت نه او بغير

مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةَ الْحِسَابِ جَعَلَهُ مُقْبِلًا

دمشقت نه او بغير دستختي دحساب نه او مگر خوش متوجه كيدونك

عَلَيْنَا ○ وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا ○

به مونرو باندم. او مگر خوش غصه كونك به مونرو باندم

وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا وَلِجَمِيعِ

او بخيشنه او كمره مونرو ته او زمونيره مورپلارته او تولو

الْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمَيِّتِينَ ○

مسلمانانوته كوم چه ژوندي دي به دوي كينه او كوم چه مړه دي او

أَخِرْدَعُونَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

آخري دعا ز مونيره داده چه تول تعريفونه الله دپاره دي چه پروردگار دعالمدنه

إِبْتِدَاءُ الرَّبِّعِ الرَّابِعِ

دخلورم ربع ابتداء

فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا

پس سوال كوم لتانه اے الله اے الله اے الله اے ژونديه. اے

قَبِيَوْمٍ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ

قائمه اے دجلال او دعزت خاوندده نيشته هيخوك معبود

إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

سوا ذاتانه ته باك نه بيشكه يمه زهه ذ

الظَّالِمِينَ ○ أَسْأَلُكَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ

ظلم كونكونه. سوال كوم تانه به وسيله دهغه چاسره چه او چته كمره نه

مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبِهَائِكَ وَ

ده كرسی ستاستا دعظمت نه اوستا دجلال نه او ستا درنرانه او

قُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ

ستا دقدرت نه او ستا دغلبه نه او په حق دنومونو ستا

المَخْرُونَةُ المَكْنُونَةُ المَطَهَّرَةُ النَّيُّ  
چه خرا نه شوي دي بت دي پاک دي چه

لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَ  
نه دي خسر په هغه باندې هيڅوک دمخلوق ستانه او

بِحَقِّ الاسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْبَيْلِ  
په حق دهغه نوم ستا چه تا کينودوپه شې باندې نوهغه

فَاظْلَمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ  
تیاره شوه اوپه ورځ باندې نوهغه روښانه شوه اوپه آسمانونو باندې

فَاسْتَقَلَّتْ ○ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ  
نوهغه مضبوط شول او په زمکه باندې نوهغه قرار او نیوؤ.

وَعَلَى الْبِحَارِ فَانْفَجَرَتْ ○ وَعَلَى الْعُيُونِ  
او په دریا بونو باندې نو هغه جاري شول او په جینو باندې

فَنَبَعَتْ ○ وَعَلَى السَّحَابِ فَامْطَرَتْ ○  
نو هغه راؤ خوتکيدې او په وریځو باندې نوهغه اووریدې

وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ المَكْتُوبَةِ فِي جِهَةِ  
اوسوال کوم تانه په اوسیلې دهغه نومونوسره چه لیکلي شوي دي په تندي

سَيِّدِنَا جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ  
د سردار زمونږ جبریل علیه السلام. او په هغه نومونو سره چه

المَكْتُوبَةِ فِي جِهَةِ سَيِّدِنَا اسْرَافِيلَ  
لیکلي شوي دي په تندي د سردار زمونږ اسرافیل

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَعَلَى جَمِيعِ المَلَائِكَةِ  
عليه السلام او په تمامو فرشتو اوسوال

وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ المَكْتُوبَةِ حَوْلَ العَرْشِ  
کوم تانه په وسیلې دهغه نومونو چه لیکلي شوي دي چا پیره دعرش نه

وَبِالْأَسْمَاءِ المَكْتُوبَةِ حَوْلَ الكُرْسِيِّ ○  
اوپه هغه نومونوسره چه لیکلي شوي دي چا پیره دکرسی نه. اوسوال

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظِيمِ الرَّعْظِيمِ الَّذِي  
کوم تانه په وسیلې دهغه نوم سره چه لونه دے اوډیر لونه دے کوم چه

سَمَّيْتِ بِهِ نَفْسَكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ اسْمَائِكَ

تا ايته دے په خان خپل او سوال کوم تانه په وسيله دنو مونو ستا

كُلُّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ○ وَ

ټولو کوم چه ماته معلوم دي او کوم چه معلوم نه دي او سوال کوم

أَسْأَلُكَ يَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

تانه په وسيله دهغه نومونو ستا چه ته رابللے نے په هغه سره سردار زمونږ

أَدُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي

آدم عليه السلام او په هغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

چه ته رابللے نے په هغه سره سردار زمونږ نوح عليه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

او په هغه نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره سردار زمونږ

صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي

صالح عليه السلام او په هغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

چه ته رابللے نے په هغه سره سردار زمونږ يعقوب عليه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ

او په هغه نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره سردار زمونږ يوسف

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه ته رابللے نے

بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره سردار زمونږ يوسف عليه السلام او

يَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوسَى

په هغه نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره سردار زمونږ موسى

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه ته رابللے نے

بِهَا سَيِّدُنَا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره سردار زمونږ هارون عليه السلام او



يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاشِعِيبُ

په هغه نومونوسره چه ته رابلله نه په هغه سره سردار زمونږ شعيب

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَا سَيِّدُ نَا اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

په هغه سره سردار زمونږ ابراهيم عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا اِسْمَاعِيلُ

اوپه هغه نومونوسره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار اسماعيل

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَا سَيِّدُ نَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار داؤد عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا سَلِيمَانَ

په هغه نومونوسره چه رابلله نه ته په هغه سره زمونږ سردار سليمان

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَا سَيِّدُ نَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار زكريا عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا يَحْيَى

په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار زمونږ يحيي

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَا سَيِّدُ نَا يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار يوسف عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْخَضِرُ

په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار زمونږ خضر

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

يَهَاسِيْدُ نَا اِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ

په هغه سره زمونږ سردار الياس عليه السلام او

بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا اِلْيَسَعُ

په هغه نومونو سره چه رابللے ئے ته په هغه سره زمونږه سردار ايسع

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه رابللے ئے ته

يَهَاسِيْدُ نَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

په هغه سره زمونږ سردار ذوالکفل عليه السلام

وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا

او په هغه نومونو سره چه رابللے ئے ته په هغه سره زمونږ سردار

عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي

عيسي عليه السلام او په هغه نومونو سره چه

دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

را بللے ئے ته په هغه سره زمونږ سردار محمد صلي الله عليه

وَسَلَّمَ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ وَحَبِيْبُكَ

وسلم چه ستا نبي دے او ستا رسول دے او ستا حبيب دے

وَصَفِيْبُكَ يَا مَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ

اوستا غوره کرے شوع دے اے هغه ذاته چه وئیلے ئے دي او وينا دهغه

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَ لَا

حقه ده "او الله پيدا کرے بي تاسو او کوم خه چه تاسو کوی" او نه

يَصْدُرُ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ عِبَادِهِ قَوْلٌ وَّ

صادر یوري دهیچا نه په بندگانو دهغه کنے نه خه قول او

لَا فَعْلٌ وَّ لَا حَرَكَةٌ وَّ لَا سَكُونٌ إِلَّا

نه خه فعل او نه حرکت او نه سکون مگر هغه دمخکبش

وَقَدْ سَبَقَ فِيْ عِلْمِهِ وَقَضَايِهِ وَقَدْرِهِ

نه وي په علم دهغه کنے او په قضا دهغه کنے او په قدر دهغه کنے

كَيْفَ يَكُوْنُ كَمَا اَلْهَمْتَنِيْ وَقَضَيْتَ

چه خرنک به وي خنکه چه تا الهام و کره ماته او حکم داو کر و

لِي يَجْمَعِ هَذَا الْكِتَابَ وَيَسِّرْتَ عَلَيَّ

ما دباره به جمع كولو ددے كتاب او آسان ذكره راله

فِيهِ الطَّرِيقَ وَالْأَسْبَابَ وَنَفَيْتَ عَنِّي

به دے كنبے طريقه او اسباب او متاؤ ذكره شما

قَلْبِي فِي هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الشَّاكِّ

دزره نه به باره ددے نبی كريم كنبے شك

وَالْإِسْرَافِ وَغَلَبْتُ حُبَّهُ عِنْدِي عَلَى

او شبه. او غالب ذكره محبت دهغه شما به نزد به

حُبِّ جَمِيعِ الْأَقْرَبَاءِ وَالْأَحْبَاءِ أَسْأَلُكَ

محبت دتولو اقرباؤ او دوستانو' سوال كوم لسانه

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْ تَرزُقَنِي وَ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ چه را نصیب كرنے مانه او هر هغه كس ته چه محبت

كُلِّ مَنْ أَحَبَّهُ وَاتَّبَعَهُ شَفَاعَتَهُ وَ

ساتي حضرت سره او دهغوی پیروي کوي' شفاعت دهغوی او

مُرَافَقَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَةٍ

ملکرتیا دهغوی د حساب به ورخ بغیر ذ سختی نه

وَلَا عَذَابٍ وَلَا تَوْبِيخٍ وَلَا عِتَابٍ وَ

او بغیر د عذاب نه او بغیر ذ رتنے نه او بغیر ذ زورنے نه او

أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ عَيْبِي يَا

داچه او بخننے مانه گناھونه شما او پت كرنے عیبونه شما اے

وَهَابُ يَا غَفَّارُ ۝ وَأَنْ تُنْعِمَ عَلَيَّ بِالنَّظَرِ

دور كرنے خواند اے بخننوكيه. او داچه نعمت راباندے و كرنے دنظر كولو

إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي جُمْلَةِ الْأَحْبَابِ

خیل ذات مبارک ته سره ذ تولو دوستانو

يَوْمَ الْمَزِيدِ وَالثَّوَابِ وَأَنْ تَتَقَبَّلَ

به ورخ ذ زیاتی انعام او د ثواب او داچه قبول كرنے

مِنِّي عَمَلِي وَأَنْ تَعْفُو عَمَّا أَحَاطَ بِعِلْمِكَ

خمانه عمل شما او داچه معاف كرنے هغه چه احاطه كرنے ده علم ستا

بِهِ مِنْ حَظِيَّتِي وَنَسِيَانِي وَرَلِي وَ

بہ ہفتے سرہ خما دخطاگانو او خما ڈھیرو او خما دلغزش او داچہ

أَنْ تُبَلِّغَنِي مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالسَّلَامِ

اورسوے ما دھغوی د قبر زیارت لہ او سلام کولو لہ بہ ہغوی بانڈے

عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِيهِ غَايَةَ آمَلِي بِمَنِّكَ

اودھغوی بہ دوار و ملگرو بانڈے انتہائی امیدخما دے سرہ د احسان

وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَوْوُ

ستا او دفضل ستا او دستخاوت ستا او دکرم ستا اے ڈیر مہربانہ اے

يَا رَحِيمُ يَا وَدِي ۝ وَأَنْ تُجَاوِزَ عَنِّي

ڈیررحم کونکیہ اے مددگار او داچہ بدلہ ور کرے ہغوی تہ خما د طرفہ

وَعَنْ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنْ

اودھرہفہ چاد طرفہ چہ ایمان ئے راورے دے بہ ہغوی بانڈے او پیروینے

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

کرے دہ دمسلماناتو سر و نہ او مسلماناتو بنخو نہ کوم چہ ژوندی دی دھغوی نہ

وَالْأَمْوَاتِ أَفْضَلَ وَأَتَمَّ وَأَعَمَّ مَا

او کوم چہ سرہ دی ڈیر غورہ او ڈیر مکمل او ڈیر عام ہفتہ چہ

جَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ يَا قَوِيُّ

جز اور کرے دہ تا بہ ہفتے سرہ یوکس تہ دمخلوق خیل نہ اے طاقتور

يَا عَزِيزُ يَا عَلِيُّ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَا

اے غالبہ اے او چتہ او سوال کوم لتانہ اے اللہ بہ حق دھغہ چا

أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

چہ وسیلہ م نیولے دہ بہ ہفتے سرہ تاتہ چہ درود اولیکہ بہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد بانڈے او بہ آل د سردار زمونیر محمد بانڈے بہ شمار

مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ

دھغے چہ تا پیدا کری دی مخکنے ددے نہ چہ آسمان

مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ

چور شوے وو او زمکہ غور بدلے وہ او غرونہ



عُلُوِّيَّةٌ وَالْعِيُونُ مُنْفَجِرَةٌ وَالْبَحَارُ

او چت شوي وو او چينے جاري شوي وے او دريا بولہ

مُسَخَّرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مِنْهُمْ رَمَّةٌ وَالشَّمْسُ

تابع د حکم وو او نھرونه روان شوي وو اونھ

مُضِيَّةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالنَّجْمُ مُنِيرًا

رو بيا نه شوي وو او سپوږمي نوراني شوي وه او ستوري خليدلي وو

وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَيْثُ تَكُونُ إِلَّا أَنْتَ

اونه وه معلومه هيجاته چه څنگه دي مگر تاته او داچه رحمت او ليرے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ

په هغوي باندي او دهغوي په آل باندي په شمار د کلام خپل او داچه

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ

رحمت اوليرے په هغوي باندي او دهغوي په آل باندي په شمار د آيتونو

الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

د قرآن او دھرفونو دهغه او داچه رحمت او ليرے په هغوي باندي او

عَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَأَنْ

په آل دهغوي په شمار دهغه چاچه درو دليري په هغوي باندي او داچه رحمت

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ

اوليرے په هغوي باندي او په آل دهغوي په شمار دهغه چاچه درود نه ليري

عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِنْ

په هغوي باندي او داچه رحمت اوليرے په هغوي باندي او په آل دهغوي په

أَرْضِكَ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

د کوالي د زمکے ستا او داچه رحمت اوليرے په هغوي باندي او په آل دهغوي

عَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمَّ الْكِتَابِ

په شمار دهغه چه جاري شوي دے وړ باندي قلم په لوح محفوظ کښے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَا

او داچه رحمت او ليرے په هغوي باندي او په آل دهغوي په شمار دهغه

خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ ○ وَأَنْ

چه تا پيدا کړي دي په اوو آسمانونو خپلو کښے او داچه

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ

رحمت اولیوں پہ ہغوی باندے او پہ آل دھغوی پہ شمار دھغہ خیزو نو چہ

فِيهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ

تہ خالق دھغوی نے پہ دوی کنیے دقیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنیے

مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةَ

زرخلے . او داچہ رحمت اولیوں پہ ہغوی باندے او پہ آل دھغوی پہ شمار

قَطْرِ الْمَطَرِ وَكُلِّ قَطْرَةٍ فَطَرْتُ مِنْ

د شاخکو دبارون او دھر ہغہ شاخکی چہ راوریدلے دے ستا

سَمَاوِيكَ إِلَىٰ أَرْضِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

د آسمان نہ ستا زمکے طرفتہ د کومے ورخ نہ چہ تا پیدا کرے دہ

الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت تر ورخ پورے پہ ہر ورخ کنیے

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

زہ خلیے

الْحَزْبِ السَّابِعِ فِي يَوْمِ الْاِحْدَىٰ

اوم حزب د اتوار دورخے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةَ مَنْ سَبَّحَكَ

اوداچہ درود اولیوں پہ ہغوی باندے او دھغوی پہ آل باندے پہ شمار دھغہ

وَقَدْ سَكَ وَسَجَدَ لَكَ وَعَظَّمَكَ مِنْ

چاچہ ستا سبیح نے ویلے دے اوستاپا کوالے نے بیان کرے دے اوتانہ نے سجدہ

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

کرے دہ اوستالونی نے بیان کرے دہ دھغے ورخ راسے چہ تانیا پیدا کرے دہ

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

دقیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنیے زرخلے . اوداچہ رحمت اولیوں پہ

وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةَ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتَهُمْ فِيهَا

ہغوی باندے او دھغوی پہ آل باندے پہ شمار دھر کال چہ تا پیدا کرے دی

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ہغوی پہ ہغے کنیے دھغہ ورخ نہ چہ تانیا پیدا کرے دہ دقیامت ترورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّ

به هره ورخ کنی زرخلی. او داچه رحمت اولیر

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ السَّمَاوَاتِ الْجَارِيَةِ

به هغوی باندی او دهغوی په آل باندی به شمار دروانی ورین

وَأَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ الرِّيَّاحِ

او داچه رحمت اولیر به هغوی باندی به شمار دبا دونو

الدَّارِيَةِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

الوتونکو دکومے ورخ نه چه تا دنیا پیدا کرے ده تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

ورخ قیامت پورے به هره ورخ کنی زرخلی.

وَأَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ مَا

اوداچه رحمت اولیر به هغوی باندی او په آل دهغوی به شمار دهغه

هَبَّتِ الرِّيَّاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنْ

غیزونو چه چلیبری هواکانی به هغی باندی.

الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأوراقِ الثَّمَرِ

دشانگونو او داونو نه او د پانوونه او دمیونو

وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَى قَرَارِ

او د گلونو نه او په شمار دهغه چه تا پیدا کرې دی په مخ

أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ مِنْ يَوْمٍ

دزمکنی ستا او په مینخ د اسمانونو ستا کنی دکومے ورخ نه چه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

تا پیدا کرے ده دنیا دقیامت تر ورخ پورے به هره

يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَ

ورخ کنی زرخلی. او داچه رحمت اولیر به هغوی باندی او

عَلَى إِلَيْهِ عَدَدَ مَا وَجَّحَ بِحَارِكِ مِنْ يَوْمٍ

په آل دهغوی به شمار د چو دریاونو ستا دکومے ورخ نه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

چه تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت تر ورخ پورے به هره

يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

ورآ كنبے زرآلے . او داآهه رآهآ او لیبے به هغوی باندمے او

عَلَى إِلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَكُلِّ حَجْرٍ

به آل دهغوی به شمار دشكو او كوت كانبه او دهر كانبه

وَمَدْرٍ خَلَقْتَهُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ

او دهرے لوتبه آهه آهیده كرمے ده دزمكے به مشرقونو كنبے او

مَغَارِ بِهَاسْهَلْهَآ وَجِبَالِهَا وَأُودِيَّتِهَا

دهغه به مغربونو كنبے دهغه به نومه حصے كنبے او دهغه به عزونو كنبے او دهغه به

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

آورونو كنبید كومه ورآ نه آهه آهیده كرمے ده دقبعآ ترورآ بورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

به هره ورآ كنبے زرآلے . او داآهه رآهآ او لیبے

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ

به هغوی باندمے او به آل دهغوی به شمار دشينو دزمكے

فِي قِبَلَتِهَا وَجُوفِهَا وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا وَ

به دقلے دهغه كنبے او به آهته دهغه كنبے او دمشرق دهغه كنبے او

سَهْلِهَا وَجِبَالِهَا مِنْ شَجَرٍ وَشَمْرٍ وَ

دمغرب دهغه كنبے او به نومه دهغه كنبے او به غرونو دهغه كنبے او نونه

أُورَاقٍ وَزُرْعٍ وَجَمِيعِ مَا أَخْرَجْتَ وَمَا

او دمیونو او دبانو نه او دفصلونو نه او به شمار دتولوهغه آهیزونو آهه تر به روتبه

يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ

دبه او هغه آهه رآ آهه به ددمے نه دشينو ددمے نه او دبر كتونو ددمے نه

يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

د كومه ورآ نه آهه آهیده كرمے ده دنبا دقبعآ ترورآ بورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

ههره ورآ كنبے زرآلے . او داآهه رآهآ او لیبے به هغوی باندمے

وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْإِنْسِ

او به آل دهغوی به شمار دهغه آهه آهیده كرمے دبه دنبا دمونه

وَالْجِنَّ وَالشَّيَاطِينَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ

او دهریانو نه او دشیطانانو نه او په شمار دهغه څه چه ته پیدا کونکې نه

مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دهغوی نه د قیامت تر ورځ پورې په هره ورځ کښې

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرځلې. او داچه رحمت او لیرې په هغوی باندې او په آل دهغوی

إِلَيْهِ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَعْيُنِهِمْ وَ

په شمار د هرو یښته په بدنونو دهغوی کښې او په مخونو دهغوی

وَجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ مِمَّا خَلَقْتَ

کښې او په سرونو دهغوی کښې د کوم وخت نه چه تا پیدا کړې ده

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت تر ورځ پورې په هره ورځ کښې

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرځلې. او داچه رحمت او لیرې په هغوی باندې او په

إِلَيْهِ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَالْفَاظِهِمْ وَالْحَاظِهِمْ

آل دهغوی په شمار دساه گانو دهغوی او ذالفاظ دهغوی او ذکنلو دهغوی

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

د کومې ورځ نه چه تا دنیا پیدا کړې ده د قیامت تر ورځ پورې

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

په هره ورځ کښې زرځلې. او داچه رحمت او لیرې

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَيْهِ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجَنِّ وَ

په هغوی باندې او دهغوی په آل باندې په شمار دالو تلو د پیریانو او

خَفَقَانِ الْأَنْسِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ


د حرکتونو د انسانانو د کومې ورځ نه چه تا دنیا

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

پیدا کړې ده د قیامت تر ورځ پورې په هره ورځ کښې

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرځلې. او داچه رحمت او لیرې په هغوی باندې او په



إِلَهُ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى أَنْصِكَ  
 آل دهغوی په شمار دهر خلور خیی لرونکی خاروی چه تا پیدا کړي دي په  
 صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ  
 خپله زمکه که ورکوته وي که لونه وي د زمکه په مشرقونو کښه  
 وَمَغَارِبِهَا مِمَّا عِلْمٌ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ  
 اودهغه په مغربونو کښه کوم چه معلوم شوي دي اود کومو علم چه نيشته  
 إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى  
 چاته مکر تاته دغه د کومو ورخ نه چه تا دنيا پیدا کړه دهر  
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○  
 ورخ د قيامت په هره ورخ کښه زرخله او داچه رحمت اولير په  
 وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ  
 دهغوی او په آل دهغوی په شمار دهغه چا چه درود نه لیکله دغه په  
 صَلَّى عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ  
 هغوی بانده او په شمار دهغه چاچه درود نه دغه لیکله په هغوی او

عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي  
 په شمار دهغه چاچه درود به لیکلي په هغوی بانده د قيامت تر ورخ پور په  
 كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ  
 هره ورخ کښه زرخله او داچه رحمت اولير په هغوی  
 وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَ  
 بانده او په آل دهغوی په شمار دژوند او د مړو او  
 عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ جِبْتَانٍ وَطَيْرٍ  
 په شمار دهغه کبانو چه تا پیدا کړي دي او دمارغانو  
 وَنَمْلِ وَنَحْلِ وَحَشَرَاتٍ وَأَنْ تُصَلِّيَ  
 اودمير او دشاتو مچو اود زميني چينجو او داچه رحمت اولير په هغوی  
 عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْبَيْتِ إِذَا بَغِثَ وَالنَّهَارِ  
 بانده او په آل دهغوی په شپه کښه کله چه راخوره شي او په ورخ کښه  
 إِذَا تَجَلَّ ○ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ  
 کله چه روښانه شي او داچه رحمت اولير په هغوی بانده او په آل دهغوی

فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

پہ آخرت کنبے او پہ دنیا کنبے۔ او داچہ درود اولیہ پہ ہغوی باندے او پہ آل

وَعَلَىٰ آلِهِ مُنذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

دھغوی دھغہ وخت راسے چہ کلہ ووبہ خانگور کنبے ماشوم تردے پورے چہ

إِلَىٰ أَنْ صَارَ كَهَلًا مَّهْدِيًّا فَاقْبَضْتَهُ

پوخ عمسرتہ او رسیدو لاریبو دونکے نوتا راؤ بللو خیل خان طرفہ پہ دے

إِلَيْكَ عَدْلًا مَرْضِيًّا لِتَبْعْتَهُ شَفِيْعًا

حال کنبے چہ عدل کونکے ووراضی کرے شوے وو دیارہ ددے دچہ تہ نے

حَفِيًّا ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

راپاسوے شفاعت کونکے مہربان او داچہ رحمت او لیہے پہ ہغوی باندے

عَدَدَ خَلْقِكَ وَرَضَىٰ نَفْسِكَ وَزِنَةَ

اودھغوی پہ آل باندے پہ شمار دمخلوق خیل او پہ رضا کیدلودذات خیل او پہ

عَرْشِكَ وَوَدَادَ كَلِمَاتِكَ وَأَنْ تُعْطِيَهُ

وزن د عرش خیل او پہ مقدار دسیاہی د کلمو خیلو او داچہ ور کرے ہغوی تہ

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

وسیلہ او فضیلت او درجہ او چتہ

وَالْحَوْضَ الْمُرُودَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ

او حوض د ورتلوخائے او مقام محمود

وَالْعِزَّ الْمَمْدُودَ وَأَنْ تُعْظِمَ بُرْهَانَهُ وَ

او عزت دائمی او داچہ عظیم کرے دلیل دھغوی او

أَنْ تُشْرِفَ بُنْيَانَهُ وَأَنْ تَرْفَعَ مَكَانَهُ وَ

چہ عزتمند کرے بنیاد دھغوی او چہ او چت کرے مکان دھغوی او

أَنْ تَسْتَعْمِلَنَا يَا مَوْلَانَا بِسُنَّتِهِ وَأَنْ

داچہ استعمال کرے مونیراے زمونیرہ مولی دھغوی پہ طریقہ باندے او

تُمَيِّتَنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِ ۝ وَأَنْ تَحْشُرَنَا فِي

داچہ مرگ راوے مونیرلہ پہ ملت دھغوی۔ او داچہ را پاسو مونیرہ پہ

زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِرِوَايِهِ وَأَنْ تَجْعَلَنَا

دلہ دھغوی کنبے اولاندے دہ جہنلے دھغوی تہ او داچہ او گر خوں مونیرہ

مَنْ رُفِقَ بِهِ وَأَنْ تُورِدَ نَاحِوْضَهُ وَأَنْ

دهغوی د ملکرونه او داچه ورولے مونیره دهغوی حوض ته او داچه

تَسْقِينَا بِكَاسِهِ وَأَنْ تَتَفَعَّلَ بِمَحَبَّتِهِ وَ

او خکوم په مونیره دجام دهغوی نه او داچه نفع را کرے مونیره په محبت

أَنْ تَتُوبَ عَلَيْنَا وَأَنْ تُعَافِيَنَا مِنْ

دهغوی سره او داچه توبه قبول کرے زموږ او داچه عافیت را کرے مونیره ته

جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُؤْسِ وَالْفِتَنِ مَا ظَهَرَ

د ټول بلاکانو او آفتونو نه او د فتنو نه کوم په ظاهره شوم دي

مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَنْ تُرْحَمَنَا وَأَنْ

په هغه کښه او کوم په پټه دي او داچه رحم او کره په مونیره او داچه

تَعْفُو عَنَّا وَتَغْفِرَ لَنَا وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ

معافي او کره مونیره او بخښنه او کره مونیره او ټولو مومنانو سره ته

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

او مومنانو ښځوته او مسلمانانو سروته او مسلمانانو ښځوته

ذکر الالحیات

۳۳۱

الحزب السابع

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

کوم چه ژوندي دي په هغوی کښه او کوم چه مړه دي او ټول تعريفونه خاص

رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ

الله دپاره دي چه رب دمخلو قاتو ده. او هغه کافي ده مادپاره او ډیر ښه

الْوَكِيلُ وَالْأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

کلوساز ده او نښته ده طاعت گناه نه دېچ کيلولو نښته ده قوت دنيکی کولومگر

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

په توفیق دالله سره چه ډیر لوچت او ډیر نوم ده. ای الله رحمت اولیر په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَجَّتِ

محمداڼه او په آل سردار زموږ محمداڼه ترخوپور چه اولزونه کوي

الْحَمَائِمُ وَحَمَتِ الْاَحْوَامِ وَسَرَّحَتِ الْبَهَائِمِ

کونتره او چکره وهي مار غان او خریدل کوي بخاروي

وَتَفَعَّتِ التَّمَائِمُ وَشَدَّتِ الْعَمَائِمُ وَ

او نفع ورکوي تعویزونه او تره کيږي پټکی او



نَمَتِ النَّوَائِمُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او تو کبیری تو کیلونکی خیزونه. اے اللہ رحمت اولیبرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أُبْلِجُ

محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے ترخوپورے چه رویشانه

الرَّاصِبَا حُ وَهَبَّتِ الرِّيَا حُ وَدَبَّتِ الْأَشْبَا حُ

کبیری صبا او چلیبری هواگانے او خوزی بدنونه

وَتَعَاقَبَ الْغَدُوُّ وَالرَّوَا حُ وَتَقَلَّدَتِ

او پرله پسه راخی سحر او ماینام او زوړندولے شی

الصَّفَا حُ وَاعْتَقَلَتِ الرِّمَا حُ وَصَحَّتِ

تورے او پریبودے کبیری نیزم او درست اوسی

الْأَجْسَادُ وَالْأَرْوَا حُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

بدنونه او روحونه. اے اللہ رحمت اولیبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر په سردار محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ مَا دَارَتْ الْأَفْلَاكُ وَدَجَّتِ

محمد باندمے ترخوپورے چه گردش کوی آسمانونه او تورے اوسی

الرَّحْلَاكُ وَسَبَّحَتِ الْأَمْلاَكُ ۝

تبارے شپه او تسبیح کوی ملائک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیبرے په سردار زمونیر محمد باندمے او په

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

آل د سردار زمونیر محمد باندمے څنگه چه تا رحمت لیبرے دے په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر ابراهیم باندمے او برکت اولیبرے په سردار زمونیر محمد باندمے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے څنگه چه برکت لیبرے دے تا

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

په سردار زمونیر ابراهیم باندمے په عالموکنه بيشکه ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دیرستایلی شوم دیزرگئی والاتر۔ اے اللہ رحمت اولیومے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّا

محمد باندے او په آل د سردار زمونیر محمد باندے تر خو پورے

طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَمَا صُلِّيَتْ اِلَّا خَمْسٌ

چه نمرختل کوی او ترخو پورے چه کولے شی پنخه مونخونه

وَمَا تَأْتِي بَرْقٌ وَتَدْفُقُ وَدُقٌّ وَمَا سَبَّحَ

اوترخو پورے چه خلیری برینسا او زریری باران اوترخو پورے چه تسبیح وائی

رَعْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رعد۔ اے اللہ رحمت او لیومے پہ سردار زمونیر محمد باندے

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ السَّمٰوٰتِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندے په دکوالی د آسمانونو

وَالْاَرْضِ وَمِنْ مَّابَيْنَهُمَا وَمِنْ مَّا شِئْتَ

او دزمکے او په دکوالی د مابین ددوئی او په دکوالی دهغه خه چه

مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ۝ اَللّٰهُمَّ كَمَا قَامَ

ته نئے غوارے ددے نه پس۔ اے اللہ چه خنکھ هغه ولا پروو

بِاَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَاسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنْ

درسالت بار رسولوته او وے ویستل خلق د

الْجَهَالَةِ وَجَاهَدَ اَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلٰلَةِ

جهالت نه او او جنکیدو کافرانو سره او گمراهانو سره

وَدَعَا اِلٰى تَوْحِيدِكَ وَقَاسَى الشَّدَّ اِيْدِيَّ

او بلنه نئے او کره ستا توحید طرفته او برداشت نئے کرے سختیانے په

اِرْشَادِ عَيْدِكَ فَاَعْطِهِ اللّٰهُمَّ سُوْلَهُ

لارشدونه کنه ستابندگانونه نو ورکرے ورله اے اللہ غوبنسته دهغوی

وَيَلِّغُهُ مَأْمُوْلَهُ وَاِيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ

او وے رسوے مقصود خیل ته او ورکرے ورله وسیله او فضیلت

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَاَبْعَثْهُ الْمَقَامَ

او درجه او چته او پاسوے هغه مقام

المحمود الذي وعدته انك لا تخلف

محمود ته چه وعده دکرے ده ورسره بیشکه ته خلاف نه کوم

الوبعاد اللهم واجعلنا من

ذو عدے. اے الله او او گرخومے مونیره د پیروی کونکو نه

المتبعين لشريعته المتصفين بحبته

د شریعت دهغوی متصف کیدونکی د محبت د هغوی هدایت

المهتدين بهدیه وسيرته وتوفنا

مونلونکی هدایت دهغوی حاصلونکی دسیرت دهغوی اووفات راکرے راته

على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته

په طریقے دهغوی او مونیره محروم نه کرے دفضیلت دشفاعت دهغوی نه

واحشرتا في اتباع الغر المحجلين

اوز مونیره حشرا وکتر ے دهغوی پیروی کونکو کینے چاتندی اولاس خپے به چه خلیبری

واشياعه السابقين واصحاب اليمين

اوپه جلد دهغوی کینے چه تبولونه بهمخکنے وی اوجه عملنامه بهورکر ے کیبری په بنی لاس کینے

يا ارحم الراحمين اللهم صل

اے دهرچا نه زیات رحم کونکیه. اے الله رحمت اولیرے

على ملائكتك والمقربين وعلى

په خپلو ملائکو باندمے او په مقربوباندمے او په

انبيائك والمرسلين وعلى اهل

نبیانو خپلو او په رسولانو او په طاعت

طاعتك اجمعين واجعلنا بالصلاة

کونکو خپلو تبولو باندمے او مونیره او گرخومے په درود لیکلوباندمے

عليهم من المرحومين اللهم

په هغوی باندمے درحم کرے شوونه. اے الله

صل على سيدنا محمد المبعوث

رحمت اولیرے په سردارز مونیر محمد باندمے شوک چه لیکلے شومے دے

من تهامة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

دمکے نه او حکم کونکے دے دنیکو کارونو او داستقامت په دین باندمے

وَالشَّفِيعِ لِأَهْلِ الدُّنُوبِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ

او شفاعت کونکے گنہگارو دپارہ د قیامت پہ میدان کنیے

اللَّهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَ

اے اللہ او رسوے زمونیر دطرفہ زمونیر نبی تہ او زمونیر شفیع تہ او

حَبِيبَنَا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

زمونیر محبوب تہ غورہ درود او سلام

وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الْكَرِيمَ

او پورتنہ نے کہے بہ مقام محمود کنیے چہ دیر اعلیٰ دے

وَأَيُّهُ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

او ورکے ورتہ فضیلت او وسیلہ او درجہ

الرَّفِيعَةَ الَّتِي وَعَدْتَهُ فِي الْمَوْقِفِ

اوجتہ دکومے چہ دور سرہ وعدہ کہے دہ پہ مینخ دخانے

الْعَظِيمِ ۝ وَصَلِّ لِلَّهِمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً

اوجت کنیے اور رحمت اولیبرے اے اللہ پہ ہغوی باندے داسے رحمت

دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالَى وَتَدُومُ ۝

چہ ہمیشہ وی پیوست وی بلہ ہسے او ہمیشہ وی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مَا لَاحَ

اے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہغوی باندے او بہ آل دہغوی تر خوہورے

بَارِقٌ وَذَرَّ شَارِقٌ وَوَقَبَ غَاسِقٌ وَ

چہ خلیبری بجلی او راؤخی نمر او تیارہ کیری شہ او

انْهَمَرَ وَادِقٌ ۝ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

وربیری وریخہ او رحمت او لیبرے پہ ہغوی باندے او بہ

إِلَيْهِ مِنْ اللُّوْحِ وَالْفَضَاءِ وَمِثْلِ نُجُومِ

آل دہغوی بہ دکوالی دلوح اودفر احوالی دزمکے او بہ مثل دستورو

السَّمَاءِ وَعَدَدِ الْقَطْرِ وَالْحَصَىٰ وَصَلِّ عَلَيْهِ

دآسمان او بہ شمار دشاخکو اودکوت کاترو او رحمت ہرے اولیبرے

وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَاةً لَا تَعُدُّ وَلَا تُحْصَىٰ ۝

او بہ آل دہغوی داسے رحمت چہ نہ نے شمار وی او نہ پورہ والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زينة عرشك ومبلغ

اے اللہ رحمت اولییرے پہ ہغوی باندے پہ برابری دوزن دعرش خیل او

رضاک ووداد کلماتک ومنتھ رحمتک

پہ انلازے درضاستاویہ برابر والی دسیاہی دکلماتوستاویہ انتھی درحمت ستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ

اے اللہ رحمت اولییرے پہ ہغوی باندے اوپہ آل دھغوی اوپہ بییانو

وذریتہ وبارکک علیہ وَعَلَىٰ اٰلِهٖ وَ

دھغوی اوپہ اولاد دھغوی اوپرکت اولییرے پہ ہغوی باندے اوپہ آل دھغوی

اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ

اوپہ بییانو دھغوی اوپہ اولاد دھغوی خنکہ چہ درحمت لیگلے دے اوپرکت

عَلَىٰ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا

دلیرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے اوپہ آل د سردار زمونیر

اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَجَارِهٖ

ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیرستایلی شومے دبزرگی والائے او جزا ور کرے ور تہ

عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَن اُمَّتِهٖ

زمونیر دطرفنہ ہغہ بہترہ جزا چہ تاور کرے دہ یونی تہ دخیل امت د طرفہ

وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ بِمِنْهَا جِ

او مونیرہ او کرخومے پہ ہدایت موندونکو کنیے پہ لارہ

شَرِيْعَتِهٖ وَاھْدِنَا بِھَدْيِهٖ وَتَوْفِقْنَا عَلٰی

دشریعت دھغوی او مونیرہ او چلومے پہ سیرت دھغوی او وفات رالہ راکرے

مِلَّتِهٖ وَاَحْشُرْنَا یَوْمَ الْفَرَعِ الْاَكْبَرِ

پہ ملت دھغوی او مونیرہ را پاسومے پہ ورخ دھغہ لونے یرے

مِنَ الْاٰمِنِيْنَ فِیْ زُمْرَتِهٖ وَاَمْتِنَا عَلٰی

دامن والاونہ پہ دلہ دھغوی کنیے او مرک رالہ راکرے پہ

حُبِّهٖ وَحُبِّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ

محبت دھغوی اوپہ محبت دھغوی او داصحابو دھغوی او دا اولاد دھغوی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ

اے اللہ رحمت اولییرے پہ سردار زمونیر محمد باندے شوک چہ غورہ دے

أَنْبِيَاكَ وَ أَكْرَمَ أَصْفِيَاكَ وَ إِمَامَ

بہ بنیانوستا کنیے او دیر غورہ دے بہ غورہ کہے شووستا کنیے او امام دے

أَوْلِيَاكَ وَ خَاتَمَ أَنْبِيَاكَ وَ حَبِيبِ

د دوستانو ستا او ختمونکے دے د پیغمبرانو ستا او محبوب

رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ شَهِيدِ الْمُرْسَلِينَ وَ شَفِيعِ

د رب العالمین دے او گواہ درسلوانو دے او شفاعت کونکے

الْمُذْنِبِينَ وَ سَيِّدِ وُلْدِ أَدَمَ أَجْمَعِينَ

د گنہگارو دے او سردار دے د آدم دتول اولاد

الْمَرْفُوعِ الذِّكْرِ فِي الْمَلِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

جہ او چت کہے شوے دے ذکر دھغویٰ بہ ملائکو مقربو کنیے

الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السَّرَاحِ الْمُنِيرِ الصَّادِقِ

جہ زیرے ور کونکے دے 'برونکے دے دیوہ دہ رویشانہ ریشتنے دے

الْأَمِينِ الْحَقِّ الْمُبِينِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

امانت دار دے حق ظاہرونکے دے دیر مہربان دیر رحم کونکے دے

الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي

لا رہ بنودونکے دے طرف دنیغے لارے. ہفہ ہستی جہ

أَنْبِيَتِهِ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

تاورلہ ورکری دی اوہ آیتونہ د سورت فاتح او قرآن عظیم

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ هَادِي الْأُمَّةِ أَوَّلِ مَنْ

نبی درحمت دے او رھنما د اُمت دے اول ہفہ کس دے

تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ

جہ راؤ زیہ دقبرنہ او دا خلیوی بہ جنت تہ

وَالْمُؤَيَّدِ بِسَيِّدِنَا جَبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا

اوملد کہے شوے دے زمونیر بہ سردار جبریل سرہ اوزمونیر بہ سردار

مِيكَائِيلَ الْمُبَشِّرِ بِهِ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

میکائیل سرہ زیرے نے ور کہے شوے دے بہ تورات او بہ انجیل کنیے

الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُنتَخَبِ أَبِي

غورہ کہے شوے غورہ کہے شوے 'منتخب کہے شوے ابو

الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

القاسم سردار زمونیر محمد خونے د عبد اللہ خونے

بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ۝ اللَّهُمَّ

د عبد المطلب خونے د ہاشم اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ

رحمت او لیبے پہ خپلو ملائکو او مقربینو ہفہ خوگ

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَ

چہ تسیح واتی شہ او ورخ سستیانہ کوی او داللہ نافرمانی

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

نہ کوی پہ ہفہ حکم کنیے چہ ورتہ نے کرے وی او کوی ہفہ کار

مَا يُؤْمَرُونَ ۝ اللَّهُمَّ وَكَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ

چہ دکوم ورتہ حکم شوے وی اے اللہ او خنکہ چہ دھوی منتخب کری

سَفَرَاءَ إِلَى رُسُلِكَ وَأَمْنَاءَ عَلَى وَحْيِكَ

دی پیغام رسونکی خپلو رسولا نو طرفتہ او امانتدار پہ وحی خپلے

وَشَهِدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ وَخَرَقْتَ لَهُمْ

او گواہان پہ مخلوق خپل او خیرے کرے ددی ہوی دپارہ

كُنْفَ مَجِيكَ وَأَطَلَعْتَهُمْ عَلَى مَكُونِ

کنارے دپہر دو خپلو او خیر کرے ددی پہ پت

غَيْبِكَ وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةَ لَجْنَتِكَ

غیب خپل او اختیار کری ددی پہ ہوی کنیے خیال ساتونکی دجنت خپل

وَحَمَلَةَ لِعَرْشِكَ وَجَعَلْتَهُمْ مِنْ

او او چترنکی دعرش خپل او گرخولی ددی د

أَكْثَرِ جُنُودِكَ وَقَضَيْتَهُمْ عَلَى الْوَرَى

اکثر و لیبکرو خپلوانہ او فضیلت دورلہ ور کرے دے پہ مخلوق باندے

وَأَسَكَنْتَهُمُ السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَنَزَّهْتَهُمْ

او استوگنہ دور کرے دہ پہ او چتو اسامانونو کنیے او پاک کری ددی

عَنِ الْمَعَاصِي وَالذَّنَائِبِ وَقَدَّسْتَهُمْ

دگناہونونہ او د بدوعا دتونونہ او پاک کری ددی

عَنِ التَّقَائِصِ وَالْأَقَاتِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ

دنقانصونه او دآفتونونه. پس درود اوليرے په هغوی باندے

صَلَاةً دَائِمَةً تَزِيدُهُمْ بِهَا فَضْلًا

داسے درودچه همیشه وي چه زیات کرے په هغه سره بزركي دهغوی

وَتَجْعَلْنَا لِاسْتِغْفَارِهِمْ بِهَا أَهْلًا

او او گړخوے مونږ دهغوی استغفار کولو د پاره په هغه سره اهل

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَ

اے الله او درود او ليرے په ټولو انبياو څپلو او څپلو هغه رسولانو

رُسُلِكَ الَّذِينَ شَرَحَتْ صُدُورَهُمْ

باندے چه پرانستے دي تا سينے دهغوی او ورسره داينے دے حکمت

وَأودَعَتْهُمْ حِكْمَتَكَ وَطَوَّقَتْهُمْ نُبُوتَكَ

څپل او په غاړه كښے دے ورته اچولے دے نبوت څپل او نازل كړي

وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كُتُبَكَ وَهَدَيْتَهُمْ

ددې په هغوی باندے كتابونه څپل او هدايت دكړے دے دهغوی په ذريعه

خَلَقَكَ وَدَعَا إِلَى تَوْحِيدِكَ وَشَقُّوْا

مخلوق څپل ته او هغوی رابدل كړي دي ستانو حيد طرفته او شوق نړے

إِلَى وَعْدِكَ وَخَوْفُوا مِنْ وَعِيدِكَ وَ

ور كړے دے ستا وعده ته او برؤل نړے كړي دي ستا د عذاب نه او

أَرشَدُوا إِلَى سَبِيلِكَ وَقَامُوا بِحُجَّتِكَ

رهنمائي نړے كړے ده ستا لارے طرفته او او دريدلي دي ستا په حجت سره

وَدَلَّيْلِكَ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تَسْلِيمًا

اوستا په دليل سره او سلام او ليرے اے الله په هغوی باندے ډير سلام

وَهَبْ لَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

اورا كړے مونږ ته په درود ونيلو سره هغوی باندے لوڼے اجر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او ليرے زمونږ په سردار محمد باندے او په

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً

آل د سردار زمونږ محمد باندے داسے رحمت چه همیشه وي



مَقْبُولَةٌ تُؤَدِّي بِهَا عَنَا حَقَّهُ الْعَظِيمُ

او مقبول وی چه اداشی په هغه سره زمونږ نه لونه حق دهغوی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

ای الله رحمت اولیې په سردار زمونږ محمد باندې چه صاف دے

الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالْبَهْجَةِ وَالْكَمَالِ

دحسن او جمال او دخو شحالو او دکمال

وَالْبَهَاءِ وَالنُّورِ وَالْوِلْدَانِ وَالْحُورِ وَ

او د رنرا او دنور او د غلمانو او دحورو او

الْغُرَفِ وَالْقُصُورِ وَاللِّسَانِ الشُّكُورِ

د بالاخانو او دمحلونو او د ژبې شکر کندانے

وَالْقَلْبِ الْمَشْكُورِ وَالْعِلْمِ الْمَشْهُورِ

او د زړه شکر کونکي او د علم مشهور

وَالْجَيْشِ لِمَنْصُورِ وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ

او دلښکر فتحمنداو صاحب دخامنو او دلونږو

وَالْأَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ وَالْعُلُوِّ عَلَى الرَّجَاءِ

اود بیبانو پاکیزه و او صاحب داوجوالی په درجو باندے

وَالزَّمَنِ وَالْمَقَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

او صاحب د زمزم او دمقام محمود اود مشعره حرام

وَأَجْتِنَابِ الْأَثَامِ وَتَرْبِيَةِ الْإِيْتَامِ وَالْحَجِّ

اود پرهیز کونکي دگناهونو نه اوتربیت کونکے دیتیمانو او صاحب د حج

وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَتَسْبِيحِ الرَّحْمَنِ وَصِيَامِ

او د تلاوت قرآن او د تسبیح د رحمن او دروزو

رَمَضَانَ وَاللِّوَاءِ الْمَعْقُودِ وَالْكَرَمِ

د رمضان او د جهنم غوټه لرونکے او دکرم

وَالْجُودِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ صَاحِبِ الرَّغْبَةِ

اود سخا او د وفا په لوظونو باندے صاحب د رغبت

وَالرَّغَيْبِ الْبَغْلَةِ وَالْجَبِّ وَالْحَوْضِ

اود ترغیب او صاحب د بغلے (قجرے) او شریف او صاحب د حوض

وَالْقَضِيْبُ لِلنَّبِيِّ الْاَوْابِ لِلنَّاطِقِ بِالتَّوَابِ

او ذنورے اللہ تہ رجوع کونکے نبی و یونکے سرہ دحق و بنا

الْمَنْعُوتِ فِي لِكْتَابِ لِلنَّبِيِّ عَبْدِ اللّٰهِ النَّبِيِّ

تعریف کرے شوے پہ کتاب کئے نبی د اللہ بندہ نبی

كَتْرِ اللّٰهِ النَّبِيِّ حُجَّةِ اللّٰهِ النَّبِيِّ مَنْ

د اللہ خزانہ نبی د اللہ حجت دا سے نبی چہ خوک نے اطاعت

اَطَاعَهُ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَاهُ

او کبری نوبقینا هغه د اللہ اطاعت او کر و او چاچہ دهغه نافرمانی او کره

فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ الْعَرَبِيُّ الْقُرَشِيُّ

نوبقینا هغه دا اللہ نافرمانی او کره نبی عربی دے قریشی دے

الرَّمْزَمِيُّ الْمَكِّيُّ التَّهَامِيُّ صَاحِبِ

زمزمی دے مکی دے تهامی دے خاوند

الْوَجْهِ الْجَوْبِيِّ وَالطَّرْفِ الْكَجْبِيلِ

د حائستہ مخ دے او صاحب ذ رانجو دارو ستر کجودے

وَالْحَدِّ الْاَسِيلِ وَالْكَوْثَرِ وَالسَّلْسِيلِ

او داننگی هوار او د کونثر او د سلسیل دے

قَاهِرِ الْمُضَادِّينَ مُبِيدِ الْكُفْرَيْنِ وَ

غالب پہ مخالفینو هلاکونکے دکافرانو او

قَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحْجَلِينَ

قاتل د مشرکانو قائد د خلیدونکو لاسونو خجو

اِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَجَوَارِ الْكَرِيمِ

د جنت نعمتونو طرفتہ او پناہ د کریم

صَاحِبِ سَيِّدِ نَاجِرِ بَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

دوست د سردار زمونیر جبرئیل علیہ السلام

وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ

او رسول د رب العالمین او شفاعت کونکے د گنہگارانو

وَعَايَةِ الْغَمَامِ ○ وَوَصْبَاحِ الظَّلَامِ

او غایت د رحمت دوریخو او دیوہ ده ذتیارو



وَقَمَرِ التَّمَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

اوسپوری ذہ خوار لسمے شے رحمت دالہ دوی یہ ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی

المُصْطَفَيْنَ مِنْ أَطْهَرِ جِبَلَةٍ صَلَوَةٌ

شوگ چہ غورہ کرے شوی دی بہ پاک ترینہ دلہ کنہے داسے رحمت چہ

دَائِمَةٌ عَلَى الْأَبَدِ غَيْرِ مُضْمَلَةٍ صَلَّى

ہمیشہ وی بہ ہمیشہ والی بانہے نہ وی قطع کیونکہ رحمت دالہ دوی بہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوَةٌ يَتَجَدَّدُ

ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی داسے رحمت چہ تازہ کیہی بہ ہغے سرہ خوشالی

بِهَا حُبُّهُ وَيُشْرَفُ بِهَا فِي الْمَبْعَادِ

دھغوی او اوچت کرے شی بہ ہغے سرہ بہ قیامت کنہے راتل دھغوی او تشریف

بِعَثَّةٍ وَنُشُورُهُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

راؤزل دھغوی بہ حشر کنہے بس رحمت دالہ دوی بہ ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی

آلِهِ الْأَجْمَعِ الطَّوَالِحِ صَلَوَةٌ تَجُودُ عَلَيْهِمْ

شوگ چہ خلیلونکی سوری دی داسے رحمت چہ او وریری بہ ہغوی بانہے

أَجُودَ الْغِيُوثِ الْهَوَامِعِ أَرْسَلَهُ مِنْ أَرْحِ

بہ ہنہ وریلونکوبار انونو سرہ لیکلے نے دے ہغوی کرہ دافضل ترینو عربونہ بہ

الْعَرَبِ مِيزَانًا وَأَوْصَحَهَا بَيَانًا وَ

میزان کنہے او بہ زیات واضح بیان کونکہ کنہے او بہ زیات فصاحت والو کنہے

أَفْصَحَهَا لِسَانًا وَأَشْمَخَهَا إِيْمَانًا وَأَعْلَمَهَا

بہ ژبہ کنہے اوزیات اوچت دھغوی نہ بہ ایمان کنہے او زیات اوچت بہ ہغوی

مَقَامًا وَأَحْلَاهَا كَلَامًا وَأَوْفَاهَا ذِمَامًا

کنہے بہ مقام کنہے اوزیات خود بہ ہغوی کنہے بہ کلام کنہے اوزیات کامل بہ

وَأَصْفَهَا رَغَامًا ۝ فَأَوْصَحَ الطَّرِيقَةَ

ہغوی کنہے بہ بزرگی کنہے او زیات خالص بہ ہغوی کنہے بہ نسب

وَنَصَحَ الْخَلِيقَةَ وَشَهَّرَ الْإِسْلَامَ وَكَسَّرَ

کنہے ہس واضح نے کر لہ لارہ اونصیحت نے او کر و خلقوتہ او مشہور نے

الْأَصْنََامَ وَأَظْهَرَ الْحُكْمَ وَحَظَرَ الْحَرَامَ

کر و اسلام اومات کرل بتان او ظاہر نے کرل احکام او بندلوا نے او کر و دحر امو نہ

وَعَمْرٍ بِالْإِنْعَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

او عام شولوپه نعمتونوسره. رحمت دالله دوي په هغوی باندے او په

إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَحْفَلٍ وَمَقَامٍ أَفْضَلِ

آل دهغوی په هر محفل کنے او مقام کنے غوره

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

درود او سلام. رحمت دالله دوي په هغوی باندے او په آل دهغوی

إِلَيْهِ عَوْدًا أَوْ بَدَأً ○ صَلَاةً تَكُونُ

په دے حال کنے چه بیایانے مگر چی اونومے کبیري. داسے رحمت چه شی

ذَخِيرَةً وَوَرْدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

ذخیره او ورد. رحمت دالله دوي په هغوی باندے او په

إِلَيْهِ صَلَاةً تَأْتِي زَاكِيَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آل دهغوی داسے رحمت چه پوره پاک وي اورحمت دالله دوي په هغوی

وَعَلَى إِلَيْهِ صَلَاةٌ يَتَّبِعُهَا رُوحٌ وَرِيحَانٌ

باندے او په آل دهغوی داسے رحمت چه ورپسے وي روح او ريحان

وَبَعْقِبِهَا مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ ○ وَصَلَّى اللَّهُ

او ورپسے وي مغفرت او رضوان. او رحمت دالله دوي

عَلَى أَفْضَلِ مَنْ طَابَ مِنْهُ التَّجَارُؤُ

په هغوی غوره هستی چه پاک شوورسره نسب او

سَمَائِهِ الْفَخَارُ وَاسْتَنَارَتْ بِنُورِ جَبِينِهِ

اوچت شوورسره غوره خویونه او اوخلیدے په نور دتندی دهغوی سره

الْأَقْمَارُ ○ وَتَضَاءَتْ لَكَ عِنْدَ جُودِ عَيْبِهِ

سپهرمی. او کم حیثیته شومے دهغوی دنی لاس دسختا په وړاندے

الْغَمَائِمِ وَالْبِحَارِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

ورینخے او دریا بونہ. سردار زمونږ او نبی زمونږ

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَاهَرِ آيَاتِهِ أَضَاءَتْ

محمد باندے دچابه غالبو آیتونو سره چه روښانه شولے

الْأَنْجَادُ وَالْأَعْوَارُ وَيُعْجِزَاتِ آيَاتِهِ

او چتے زمکے او کنڈے او دهغوی دآیتونو معجز و سره

نَطَقَ الْكِتَابُ وَتَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ

کویانہ شولو کتاب او پرلہ ہسے راغلل خبرونہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

رحمت دالله دوی پہ ہغوی بانلدے او پہ آل دہغوی او پہ اصحابو دہغوی

الَّذِينَ هَاجَرُوا لِلنُّصْرَةِ وَنَصَرُوهُ

چاچہ ہجرت کرے دے دہغوی مرستے د پارہ او ملکر تیانے او کرہ

فِي هَجْرَتِهِ فَنِعْمَ الْمُهَاجِرُونَ وَنِعْمَ

پسہ ہجرت دہغوی کنسے نو ڈیر بنہ مہاجرین وو او ڈیر بنہ

الْأَنْصَارُ صَلَاةٌ تَامِيَةٌ دَائِمَةٌ مَا

انصار وو داسے رحمت چہ زیاتیلونکے وی ہمیشہ وی ترخو پورے چہ

سَجَعَتْ فِي أَيِّهَا الْأَطْيَارُ وَهَمَّعَتْ

چغفار کوی پہ خانکو کنسے مارغان او ترخو پورے چہ وریکی

يُوبِلُهَا الدِّيْمَةُ الْمِدْرَارُضَاعُفَ اللَّهُ

پہ خپل زور سرہ باران ڈیر وریدونکے دو چند دکری الله

عَلَيْهِ دَائِمَ صَلَوَاتِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ہغوی بانلدے ہمیشہ رحمت خپل اے الله رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

زمونیر پہ سردار محمد بانلدے او دہغوی پہ آل بانلدے چہ پاک دی

الْكَرَامِ صَلَاةٌ مَوْصُولَةٌ دَائِمَةٌ

او عزتمند دی داسے رحمت چہ پیوست وی ہمیشہ

الْإِتِّصَالِ بِدَاوَمِ ذِي الْجَلَالِ الْإِكْرَامِ

او خائے شوم وی پہ ہمیشہ والی د خاوند د جلال او داکرام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے الله رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد بانلدے خوک چہ

هُوَ قُطْبُ الْجَلَالَةِ وَشَمْسُ لُبُّوَّةِ

مدار د بزرگی دے او نمر د نبوت

وَالرِّسَالَةِ وَالْهَادِي مِنَ الصَّلَاةِ

او درسالت دے اولارہ بنو دونکے دے دکمراہی نہ

وَالْمُنْقِذُ مِنَ الْجَهَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

او خلاصونکے دے د جہالت نہ، رحمت داللہ دوی پہ ہغوی باندے

وَسَلَّمَ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ لِإِتِّصَانِ التَّوَالِي

او سلام، داسے رحمت چہ ہمیشہ پیوست وی او متواتر وی

مُتَعَاقِبَةٍ بَتَعَاقِبِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي ۝

یوبل پسے وی پہ شان د تلوراتلو د ورخو او د شہو

الْحِزْبُ الثَّامِنُ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

اتم حزب د پیر د ورخے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ نبی دے

الزَّاهِدِ رَسُولِ لِمَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ

زاهد دے، رسول دے، بادشاہ دے، بے نیازہ دے واحد دے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ

رحمت د اللہ دوی پہ ہغوی باندے داسے رحمت پہ ہمیشہ وی

إِلَى مُنْتَهَى الْأَبَدِ بِلَا انْقِطَاعٍ وَلَا

انتہا زمانے پورے چہ منقطع نہ شی او نہ فناشی داسے

نَفَادٍ صَلَوَةٌ تُنْجِنَانِيَّاهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ

رحمت چہ نجات راکیرے مونیر تہ پہ ہغہ سرہ ذکر می ددوزخ نہ

وَيَسِّرُ الْيَهَادُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او دوزخ دیترہ بدہ تکانہ دہ، اے اللہ رحمت او لیجے پہ

Four horizontal lines for writing or notes.

دلائل نبوت ۳۴۰

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى  
سردار زمونیر محمد بانڈے چہ نبی دے امی دے او بہ  
إِلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ لَا يُحْصَى لَهَا عَدَدٌ  
آل دھغوی اوسلام ہم داسے درود چہ نہ نے احاطہ او کرے شی یو عدد  
وَلَا يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  
اونہ نے او شمارے شی شوک مدد. ایے اللہ رحمت او لیجے بہ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تُكْرَمُ بِهَا مَنَوَاهُ  
سردار زمونیر محمد بانڈے داسے رحمت چہ عزتمندہ کرے بہ ہغے سرہ  
وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ  
آرامگاہ دھغوی او اورسومے بہ ہغے سرہ قیامت بہ ورخ دشفاعت نہ  
رِضَاهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
رضا دھغوی. ایے اللہ رحمت او لیجے بہ سردار زمونیر  
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَصِيلِ السَّيِّدِ  
محمد بانڈے چہ نبی دے اصیل دے سردار دے

دلائل نبوت ۳۴۱

النَّبِيِّ الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالنُّزُؤِ  
بزرگ دے ہغے ذات چہ راغلے دے بہ وحی او قرآن سرہ  
وَأَوْضَحَ بَيَانَ التَّأْوِيلِ جَاءَهُ الْأَمِينُ  
او واضحہ نے بیان کرو تفسیر دھغے او راغلے دے ورلہ امانتدار  
سَيِّدِنَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَرَامَةِ  
سردار زمونیر جبریل علیہ السلام بہ عزتمندی سرہ  
وَالْتَفْضِيلِ وَأَسْرَى بِهِ الْمَلِكُ الْجَلِيلُ  
او بہ فضیلت سرہ او سیل وربانڈے او کرو بادشاہ او چت  
فِي اللَّيْلِ لِيَهَيِّمَ الطَّوِيلُ فَكَشَفَ لَهُ  
بہ تورے شیے او گندے کنے پس کولاز نے کرے ہغوی دہارہ  
عَنْ أَعْلَى الْمَلَكَوْتِ وَأَسْرَاهُ سَنَاءً  
پردے د عالم غیب نہ او وے بنوولہ ورتہ بلندی  
الْجَبْرُوتِ وَنَظَرَ إِلَى قَدْرَةِ الْحَيِّ الدَّائِمِ  
دجبروت او نظر نے او کرو قدرت دھمیشہ ژوندی دائمی خدانے تہ



الْبَاقِي الَّذِي لَا يَمُوتُ ○ صَلَّى اللهُ

چه باقی دمی او نه مری. رحمت دالله دوی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَّقْرُونَةٌ بِالْجَمَالِ

په هغوی باندی او سلام هم داسی رحمت چه پیوست وی په جمال سره

وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ الْخَيْرِ وَالْإِفْضَالِ

او خسن سره او کمال سره او خیر او بزرگی سره

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ای الله رحمت او لیجی په سردار زمونیر محمد باندی او په آل

أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَقْطَارِ ○

د سردار زمونیر محمد باندی په شمار دشاخکو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَيِّدِنَا

او رحمت او لیجی په سردار زمونیر او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ ○ وَصَلِّ

محمد باندی په شمار دپانرو د اونو او رحمت او لیجی

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

په سردار زمونیر محمد باندی او په آل د سردار زمونیر.

مُحَمَّدٍ عَدَدَ زَبَدِ الْبِحَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندی په شمار د خک د دریابونو او رحمت او لیجی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

په سردار زمونیر محمد باندی او په آل د سردار زمونیر محمد باندی

عَدَدَ الْأَنْهَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

په شمار د نهرونو او رحمت او لیجی په سردار زمونیر محمد باندی

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمْلِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندی په شمار د شکو


الصَّحَارَى وَالْقَفَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

د صحراگانو او میدانونو او رحمت او لیجی په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندی او په آل د سردار زمونیر محمد باندی په شمار





ثَقِيلٌ يُجْبَالُ وَالْأَحْجَارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ذ دروندوالي د غرونو او کاترو. او رحمت او ليرے په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے په شمار

أَهْلِ لُجَنَّةٍ وَأَهْلِ النَّارِ وَصَلِّ عَلَى

د جنتيانو او دوزخيانو. او رحمت او ليرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

په سردار زمونږ محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے په شمار

الْأَبْرَارِ وَالْفَجَّارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

د نيکانو او بدانو، او رحمت او ليرے په سردار زمونږ محمد باندے او په آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْبَيْلُ

د سردار زمونږ محمد باندے په شمار دهغه چه مختلف شويدي په هغه سره

وَالنَّهَارِ وَاجْعَلِ اللَّهُ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ

شپے او ورځے، او او مگرڅوے اے الله درود زمونږه په هغوی باندے

حِجَابًا مِّنْ عَذَابِ النَّارِ سَبَبًا لِإِبَاحَةِ

حجاب داور د عذاب نه او سبب د مباح والي

دَارِ الْقَرَارِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

د جنت بيشکه ته په هرچا غالب او ډير بخښونکے نے.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

او رحمت دالله ډوي زمونږ په سردار محمد باندے او په

آلِ الطَّيِّبِينَ وَذُرِّيَّتِهِ الْمُبَارَكِينَ

آل د هغوی چه پاکان دي او په اولاد دهغوی چه برکتيان دي

وَصَحَابَتِهِ الْكُرَمَاءِ وَأَزْوَاجَهُ أَهْمًا


او په اصحابو دهغوي چه عزتمند دي او په بيبيانو دهغوی چه ميندے

الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةً مَّوْصُولَةً تَتَرَدَّدُ

د مومنانو دي، داسے رحمت چه يوځانے شوے او پرله پسے وي

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د قيامت ترورځ پورے، اے الله رحمت او ليرے په



سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْأَخْيَارِ

سردار ذنیکانو او په زینت ذ مرسلانو غوره کرے شو

وَ أَكْرَمَ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ الْبَيْلُ وَأَشْرَقَ

اوزیات عزتمنددھغه چانه چه تیاره کرے وی ورباندے شے او خلیدلے

عَلَيْهِ النَّهَارُ ۞ ثَلَاثًا ۞ أَللَّهُمَّ يَا ذَا

وی ورباندے ورخے (درے خل داوانی) اے الله اے خاوندے

الْمَنِّ الَّذِي لَا يُكَافِي امْتِنَانَهُ وَالطَّوْلِ

داحسان هغه ذاته چه بدله نشی کیلے داحسان ستاوداسے ورکھے والا

الَّذِي لَا يُجَازِي إِنْعَامَهُ وَاحْسَانَهُ سَأَلْتُكَ

چه عوض نشی کیلے د انعام ستا او داحسان ستا' مونیر سوال کوز

بِكَ وَلَا سَأَلْتُكَ بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَنْ تُطْفِقَ

تانه او سوال نه کوؤ دھجانه تانه سوا چه گویانه کرے

الْسِّنْتَ عِنْدَ السُّؤَالِ وَتَوْفَّقْنَا لِصَلَاةِ

ڑبے زمونیرہ په وخت د سوال دمنکر نکیر' او توفیق رالہ را کرے دنیکو

الْأَعْمَالِ وَتَجَعَلْنَا مِنَ الْأَمِينِ يَوْمَ

عملونو او او کرخوے مونیرہ دامن والاونه په ورخ

الرَّجْفِ وَالزَّلْزَلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ

دزمکے لرزیدلو او ذ زلزلو' اے د عزت او لویں خاوندے

أَسْأَلُكَ يَا نُورَ التَّوْقِيلِ لَا زَمَانَ وَاللَّهُوِيَّ

زه سوال کوم لتانه اے نورہ د نورونو مخکنے د زمانو او مودو'

أَنْتَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ الْغَفِيُّ بِلَا مِثَالٍ

ته باقی نے بغیر زواله عینی نے بے مشالہ

الْقُدُّوسُ الطَّاهِرُ الْعَلِيُّ الْقَاهِرُ الَّذِي

دیر پاک' طاهر نے' او جت نے داسے غالب نے

لَا يُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ

چه احاطه پرے نشی کولے ہیخ مکان او نه شاملیری ورباندے زمانه

أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُفَاهَا وَيَعْظُمُ

زه سوال کوم لتانه په وسیلے دتولو بنکلونو مونو ستا او په او چتو

أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَشْرَفَهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً

نومونوستا، ستا طرفتہ، او زیات شرافت والا ستا بہ نزد بہ مرتبہ کنیے

وَأَجْزَلَهَا عِنْدَكَ تَوَابًا وَأَسْرَعَهَا مِنْكَ

او زیات او جت ستا بہ نزد بہ ثواب کنیے او زیات تیز ستا د طرفہ

إِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ

بہ قبولوالی کنیے، او بہ وسیلہ دنوم ستا چہ خزانہ شومے او پتہ دے

الْجَلِيلِ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ الْكَبِيرِ الْعَظِيمِ

جلیل القدر او دتولونہ او جت دے ذلویونہ لونی دے عظیم

الْأَعْظَمِ الَّذِي تُجِبُّهُ وَتَرْضَى عَنْ مَنْ

او اعظم دے کوم چہ ستا خوبش دے او راضی کیے دھغہ چانہ چہ تا

دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ

راہلی پہ دے سرہ او قبولے تہ ہغہ دبارہ دعا دھغہ زہ سوال کوم تانہ

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِلا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْحَنَّانُ

اے اللہ پہ دے سرہ چہ نیشتہ خوگ معبود تانہ سوا، تہ دیر مہربان نے

الْمَتَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ

دیر احسان کونکر نے توے پیدا کونکر داسمانو نو او زمکر نے خاوند جلال

وَالْإِكْرَامِ عِلْمُ الْغَيْبِ الشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ

او دعزت نے، خبردار نے بہ عیبو او بنکارہ باندرے لونی

الْمُتَعَالِ ○ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ

او او جت نے، او سوال کوم تانہ بہ وسیلہ د نوم ستا سرہ چہ عظیم

الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ

او اعظم دے ہغہ نوم چہ تہ راوبللے شے بہ ہغہ سرہ نو قبول کوم

وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَأَسْأَلُكَ

او کلہ چہ سوال او کرے شی تانہ بہ ہغہ سرہ نوور کرہ کوم، او سوال

بِاسْمِكَ الَّذِي يَدُلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظْمَاءُ

کوم تانہ ستا بہ ہغہ نوم سرہ چہ سرتبتیوی بہ ورائدے د عظمت دھغے لونی

وَالْمُلُوكُ وَالسِّبَاعُ وَالْهَوَامُّ وَكُلُّ

لونی خلق او بادشاہان او درندگان او دزمکرے کھر خندہ غیزونہ او تول

شَيْءٌ خَلَقْتَهُ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دَعْوَتِي يَا

خیزو نہ چہ تا پید ا کری دی، اے اللہ، اے ربہ قبولہ کرے دعاخما اے

مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَبْرُوتُ يَا ذَا الْمُلْكِ

ہفہ ذاتہ چہ ہفہ دہارہ عزت او جبروت دے اے دملک

وَالْمَلَكُوتِ يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

او حکومت خاوندہ اے ہفہ ذاتہ چہ ژوندے دے نہ بہ مری

سُبْحَانَكَ رَبِّ مَا اعْظَمَ شَانُكَ وَاَرْفَعُ

ہ پاک نے تہ اے ربہ غہ لوئے دے شان ستا او اوچت دے

مَكَانَكَ أَنْتَ رَبِّي يَا مُتَقَدِّسًا فِي جَبْرُوتِهِ

مکان ستا، تہ خما رب نے، اے پاکہ پہ صفاتو خلو کنبے

إِلَيْكَ أَرْغَبُ وَإِلَيْكَ أَرْهَبُ يَا عَظِيمُ

ستا طرفتہ رغبت کوم او ہم تانہ یرہ کوم اے عظیمہ

يَا كَبِيرُ يَا جَبَّارُ يَا قَادِرُ يَا قَوِيُّ تَبَارَكَتَ

اے لویہ اے زور آورہ او قادرہ اے طاقتورہ، تہ برکت والا نے

يَا عَظِيمُ تَعَالَيْتَ يَا عَلِيمُ سُبْحَانَكَ يَا

اے عظیمہ، تہ لوئے نے، اے دلونے علم خاوندہ، تہ پاک نے، اے

عَظِيمُ سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ أَسْأَلُكَ

عظمت والا تہ پاک نے، اے لوئے ذاتہ سوال کوم تانہ

بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ التَّامِّ الْكَبِيرِ أَنْ لَا

ستاپہ عظیم نوم سرہ، کامل او لوئے، ذاتہ، داچہ مہ

تُسَلِّطَ عَلَيْنَا جَبَّارًا عَنِيدًا أَوْ لَا شَيْطَانًا

مسلط کوے پہ مونہ بانڈے شوک سرکش جھکے مارا و نہ شیطان

مَرِيدًا أَوْ لَا إِنْسَانًا حَسُودًا أَوْ لَا ضَعِيفًا

سرکش او نہ انسان بدخواہ او نہ شوک کمزورے

مَنْ خَلَقَكَ وَلَا شَدِيدًا أَوْ لَا بَاسًّا أَوْ

دمخلوق خیل نہ او نہ شوک سخت او نہ نیک او

لَا فَاجِرًا أَوْ لَا عَنِيدًا أَوْ لَا عَنِيدًا ○

نہ فاجر او نہ غلام او نہ عناد کونکے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ

اے اللہ زہ سوال کوم تانہ پس بیشکہ زہ گواہی کوم چہ

أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ

بہ تحقیق سرہ تہ اللہ نے چہ نیستہ دے معبود مکرہم تہ نے خانلہ

الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

یولے بے حاجتہ ہفہ ذات چہ نہ نے شوک زیکولی دی اونہ چانہ زیکیلے دے

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا هُوَ يَا مَنْ لَا

اونہ دہفہ دبارہ شوک سیال شتہ اے ہفہ ذاتہ چہ نیستہ دے شوک بل

هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا أَرْزَلُ

مکرہم ہفہ دے اے ہفہ ذاتہ چاتانہ سوا ہی شوک معبود نیستہ اے ازلی

يَا أَبَدِيُّ يَا دَهْرِيُّ يَا دِيمُومِيُّ يَا مَنْ

اے ابدی یا قائمہ اے دائمہ اے ہفہ ذاتہ چہ

هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ يَا إِلَهَنَا وَ

مملدے ژوندے دے مرگ بہ ورلہ نہ راخی اے زمونیر معبودہ او

إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ

دہرخیز معبودہ یو معبودہ نیستہ بل معبود سوا

إِلَّا أَنْتَ ۝ أَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ

ذ ستانہ اے اللہ پیدا کونکیہ ذ اسمانونو

وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ

او ذ زمکے پوہیدونکیہ بہ غیبو او بہ بشکارہ و دیر رحم کونکیہ

الرَّحِيمَ الْحَمْدُ الْقَيُّومَ الدِّيانَ الْحَمَّانَ

دیر مہربانہ اے ژوندیہ قائمہ بدلہ ور کونکیہ دیر مہربان

الْمَنَّانَ الْبَاعِثَ الْوَارِثَ ذَا الْجَلَالِ


دیر احسان کونکے مری ژوندی کونکے وارث دجلال او

وَالْإِكْرَامِ ۝ قُلُوبُ الْخَلَائِقِ بِبَيْدِكَ

دلویسے خاوند زرونہ ذ مخلوقاتو ستا پہ لاس کنے دی

تَوَاصِيهِمْ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَزْرَعُ الْخَيْرَ

تندی نے ستا طرفتہ دی پس تہ کھے نیکی



فِي قُلُوبِهِمْ وَتَمَحُّوا الشَّرَّ إِذَا اشْتَدَّتْ

دھغوی پہ زبونو کنہے او لرے کوے بدی کلہ چہ او غوارے

مِنْهُمْ ۝ فَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَمَحُّوا

ددوی نہ، نو سوال کوم لسانہ اے اللہ چہ محوہ کرے

مِنْ قَلْبِي كُلِّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ، وَأَنْ تَحْشُو

خما دذره نہ ہر ہغہ خیز چہ تہ نے بد گنہے او داچہ دک کرے

قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَمَعْرِفَتِكَ وَ

زہ خما دخیلے ویرے نہ او خیل معرفت نہ او

رَهْبَتِكَ وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْأَمْنَ

اودخیل خوف نہ، اورغب رانصب کرے دھغہ خیزونوچہ تاسرہ دی

وَالْعَافِيَةَ وَأَعْطِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ

اوامن او عافیت ہم، او مہربانی او کرے پہ مونیر بانلدے پہ رحمت سرہ

وَالْبَرَكَاتِ مِنْكَ وَالْهِمْنَا الصَّوَابَ

اوپہ برکت سرہ دخیل طرفہ اوزرہ کنہے راتہ واجمے صواب

وَالْحِكْمَةَ ۝ فَتَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمَ

او حکمت پس غوارو لسانہ اے اللہ علم

الْحَافِيَيْنِ وَإِنَابَةَ الْمُخْبِتِينَ وَإِخْلَاصَ

ذویریدونکو او متوجہ کیدل دعا جزی کونکو او اخلاص

الْمُوقِنِينَ وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ وَتُوبَةَ

دیقین کونکو او شکر د صبر کونکو او توبہ

الصَّادِقِينَ ۝ وَتَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ

دصدیقانو، او سوال کوو لسانہ اے اللہ پہ وسیلے دنور

وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ

دذات ستا کوم چہ دکے کرے دی گوشے دعرش ستا

أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى

چہ او کرے خما پہ زہ کنہے خیل معرفت تردے پورے

أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَتَّبِعُ أَنْ

چہ او پیژنم تالرہ پہ حق پیژندلو سرہ خنکہ چہ بنائیری

أَنْ تُعْرِفَ بِهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

چه او پیژندے ہے ته په هغه سره. او رحمت د الله دوي په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ

محمد باندې چه ختمونکې د نبیانو دې او امام د مرسلانو دې

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَأُحَدِّثُ

اوپه آل دهغوی او په اصحابو دهغوی او سلام پرې او لیرې دیر. او ټول

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اللَّهُمَّ اغْفِرْ

تعریفونه خاص الله د پاره دي چه رب دعا مونو دې. اے الله او بخښه

لِمَوْلَانِي وَأَرْحَمَهُ وَاجْعَلْهُ مِنْ

مؤلف د دې کتاب او رحم پرې او کړې او وې مخخو د

الْمَحْشُورِينَ فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ ○ وَ

پاسيدونکو نه په زمره د پیغمبرانو کښې او

الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ

په صدیقانو او شهیدانو او صالحانو کښې

بِفَضْلِكَ يَا رَحْمَنُ ○ وَاغْفِرِ اللَّهُمَّ لَنَا

په خپله مهرباني سره اے ډیر رحم کونکېه. او او بخښه اے الله مونږه

وَلَوْلَا دِينُنَا وَلَا سِتَارَتُنَا وَلَمْ شَأْنِ خِثْنَا وَ

او زمونږ مور پلاء او زمونږه استاذان او زمونږه بزرگان او

بِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

ټول مومنان سړي او مومنانې ښځې او مسلمانان سړي

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

او مسلمانانې ښځې کوم چه ژوندي دي په دوی کښې او کوم چه مړه دي

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ○ وَ

په خپله رحمت سره اے دټولونه زیات رحم کونکېه. او دا

أَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

چه نظر د رحمت او کړې په ده باندې بېشکه ته ډیر بخښونکې مهربان

اللَّهُمَّ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○ ثُمَّ

ئې. یا الله دا دعا قبوله کړې زمونږ اے دټولو مخلوقاتو ربه. بیا د

تَقْرَأْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً  
او ويلے شي دا کلمات خوارلس خلے

وَهِيَ هَذِهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بَدْرِ التَّمَامِ  
او هغه دادی: اے اللہ رحمت او لیرے د خوار لسمے شیے سپوز میء باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الظَّلامِ ○ اللَّهُمَّ  
اے اللہ رحمت او لیرے د تیارو په رنرا باندے... اے اللہ

صَلِّ عَلَى مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ ○ اللَّهُمَّ  
رحمت او لیرے په کتیجی دتولو خلقو باندے..... بیاد

صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنَامِ ○ ثُمَّ  
رحمت او لیرے په شفیع دتولو خلقو باندے... بیاد

تَقْرَأْ هَذِهِ الرَّبِّيَّاتُ الْمَنَسُوبَةُ لِلْمَوْلَفِ  
دا شعرونه او لوستے شي کوم چه منسوب دي مولف د دے کتاب ته

يَا رَحْمَةَ اللَّهِ إِيَّيْ خَائِفٌ وَجِلٌ ○  
اے رحمته د اللہ بیشکه زه پریدونکے لرزیدونکے یم

يَا نِعْمَةَ اللَّهِ إِيَّيْ مُفْلِسٌ عَانٌ ○  
اے داللہ نعمته بیشکه زه مفلس او عاجزه یم

وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ أَلْقَى الْعَلِيمَ بِهِ ○  
او نیشته دے ماسره داسے عمل چه ملاؤشم اللہ سره په هغه سره

سِوَى مَحَبَّتِكَ الْعُظْمَى وَإِيمَانِي ○  
سوا ستا د عظیم محبت نه او د ایمان خیل نه

فَكُنْ أَمَانِي مِنْ شَرِّ الْحَيَاةِ وَمِنْ ○  
پس شه پناه ځما د ژوند د شر نه او د

شَرِّ الْمَمَاتِ وَمِنْ إِحْرَاقِ جُثْمَانِي ○  
مرگ د شر نه او د سوزیدلو د بدن ځمانه

وَكَنْ غِنَايَ الَّذِي مَابَعْدَهُ فُلْسٌ ○  
او شه ته غنی والے ځما چه هغه نه پس محتاجی نه وی

وَكَنْ فُكَاكِي مِنْ أَغْلَالِ عَصِيَانِي ○  
او شه خلاصے ځما د طوقونو د گناه ځمانه



تَحِيَّةُ الصَّهْدِ الْمَوْلَى وَرَحْمَتُهُ ○

تحفہ دے نیازہ مالک او رحمت دہفہ

مَا عَنَّتِ الْوُرُقُ فِي أَوْراقِ عَصَانِ ○

ترخو پورے چہ آوازونہ کوی گو گو شکتے دنباخونوپہ بانرو باندمے

عَلَيْكَ يَا عُرْوَتِي الْوُثْقَى وَيَأْسَدِي ○

پتا باندمے اے خما لوئے مضبوطے وسیلے او خما سندنہ

الْأَوْفَى وَمَنْ مَدَّحَهُ رُوحِي وَكَيْمَانِي ○

کاملہ او ہفہ کسہ چہ دہفہ تعریف خما تازگی او خما گل دے

ثُمَّ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ لِلْمُؤَلَّفِ وَ

بیا داو لوستے شی سورۃ فاتحہ د پارہ دمؤلف او

هَذَا اللَّهُ عَائِدٌ يُقْرَأُ عَقِيْبَ خْتَمِ

دا دعا داو لوستے شی روستو دختم

دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ

دلائل الخیرات نہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع کوم پہ نوم دالله سرہ چہ ڈیر بخینونکے مہربان دے

اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صُدُورَنَا ○

اے اللہ پرانزے پہ درود لیکلو سرہ پہ ہفوی باندمے سینے زمونیرہ

وَيَسِّرْ لَهَا أُمُورَنَا ○ وَفَرِّجْ بِهَا هُمُومَنَا ○

اواسان کرے پہ ہفے سرہ کارونہ زمونیرہ اولے کرے پہ ہفے سرہ پریشانی

وَاجْشِفْ بِهَا غَمُّومَنَا ○ وَاعْفِرْ لَهَا

زمونیرہ اولے کرے پہ ہفے سرہ غمونہ زمونیرہ او او بخینے پہ ہفے سرہ

ذُنُوبَنَا ○ وَأَقْضِ بِهَا دِيُونَنَا ○ وَأَصْلِحْ

گناہونہ زمونیرہ او ادا کرے پہ ہفے سرہ قرضونہ زمونیرہ او درست کرے

بِهَا أَحْوَالَنَا ○ وَبَلِّغْ بِهَا أَمَالَئَنَا ○ وَ

پہ ہفے سرہ احوال زمونیرہ او اورسومے پہ ہفے سرہ امید ونہ زمونیرہ او

تَقْبَلْ بِهَا تَوْبَتَنَا ○ وَاعْسِلْ بِهَا

قبولہ کرے پہ ہفے سرہ توبہ زمونیرہ او اووینخے پہ ہفے سرہ

## دَرُودٌ مُقَدَّسٌ

درود مقدس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ اَقْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّ اَفْعَالِ مُحَمَّدٍ

یا الہی! بحرمت اقوال محمد اور افعال محمد

وَّ اَحْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّ اصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

اور احوال محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ بَدَنِ مُحَمَّدٍ

علیہ وسلم یا الہی! بحرمت بدن محمد

وَّ بَطْنِ مُحَمَّدٍ وَّ بَرَكَةِ مُحَمَّدٍ وَّ بَيْعَةِ مُحَمَّدٍ وَّ

اور بطن محمد اور برکت محمد اور بیعت محمد اور

بِرَاقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ

براق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بِحُرْمَتِ تَوْلَادِ مُحَمَّدٍ وَّ تَعْبُدِ مُحَمَّدٍ وَّ تَهْجَلِ

بحرمت تولد محمد اور تعبد محمد اور تہجیل

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

ثَنَاءِ مُحَمَّدٍ وَّ ثَوَابِ مُحَمَّدٍ وَّ ثَنَاتِ مُحَمَّدٍ

ثناء محمد اور ثواب محمد اور ثنات محمد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ جَبَالِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت جبال

مُحَمَّدٍ وَّ جِبَالِ مُحَمَّدٍ وَّ جِلِّ مُحَمَّدٍ وَّ وَجْهَةِ

محمد اور جبال محمد اور جبل محمد اور وجہ

مُحَمَّدٍ وَّ جَعْدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ

محمد اور جعد (کیسو) محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ حَسَنِ مُحَمَّدٍ وَّ حَسَنَاتِ

یا الہی! بحرمت حسن محمد اور حسنات

مُحَمَّدٍ وَّ حُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ حَالِ مُحَمَّدٍ وَّ حَلِيَّةِ

محمد اور حرمت محمد اور حال محمد اور حلیت

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

خَلْقَةَ مُحَمَّدٍ وَخَلَقَ مُحَمَّدًا وَخُطِبَةَ مُحَمَّدٍ

خَلَقْتَ مُحَمَّدًا اور خلق محمد اور خطابت محمد

وَخَيْرَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلْهِی

اور خیرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بِحِرْمَةِ دینِ مُحَمَّدٍ وَدِیَانَةِ مُحَمَّدٍ وَدَوْلَةِ

بحرمت دین محمد اور دیانت محمد اور دولت

مُحَمَّدٍ وَدَرَجَاتِ مُحَمَّدٍ وَدَعَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور درجات محمد اور دعاء محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلْهِی بِحِرْمَةِ ذَاتِ مُحَمَّدٍ

اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت ذات محمد

وَذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَذَوْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور ذکر محمد اور ذوق محمد صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ يَا أَلْهِی بِحِرْمَةِ رُوحِ مُحَمَّدٍ وَرَأْسِ

وسلم یا الہی! بحرمت روح محمد اور رأس

مُحَمَّدٍ وَرِزْقِ مُحَمَّدٍ وَرَفِيقِ مُحَمَّدٍ وَرِضَاءِ

محمد اور رزق محمد اور رفیق محمد اور رضاء

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلْهِی بِحِرْمَةِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

زُهْدِ مُحَمَّدٍ وَزَهَادَةِ مُحَمَّدٍ وَزَارِعِي مُحَمَّدٍ وَ

زہد محمد اور زہادۃ محمد اور زاری محمد اور

زِينَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلْهِی

زینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بِحِرْمَةِ سِيَادَةِ مُحَمَّدٍ وَسَعَادَةِ مُحَمَّدٍ وَسُنَّةِ

بحرمت سیادت محمد اور سعادت محمد اور سنت

مُحَمَّدٍ وَسِبْرِ مُحَمَّدٍ وَسَلَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

محمد اور سبز محمد اور سلام محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلْهِی بِحِرْمَةِ شَرَعِ مُحَمَّدٍ

علیہ وسلم یا الہی! بحرمت شرع محمد

وَشَرَفِ مُحَمَّدٍ وَشَوْقِ مُحَمَّدٍ وَشَادِ مُحَمَّدٍ

اور شرف محمد اور شوق محمد اور شاد محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلْهِی بِحِرْمَةِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

صِدْقِ مُحَمَّدٍ وَصَوْمِ مُحَمَّدٍ وَصَلْوَةِ مُحَمَّدٍ

صدق محمد اور صوم محمد اور صلوة محمد

وَصَفَاءِ مُحَمَّدٍ وَصَبْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور صفاء محمد اور صبر محمد صلى الله عليه

وَسَلَامٍ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ ضِيَاءِ مُحَمَّدٍ وَضَمِيرِ

وسلم يا الهي! بحرمت ضياء محمد اور ضمير

مُحَمَّدٍ وَضَحَاءِ مُحَمَّدٍ وَوَضْعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور ضحاه محمد اور وضع محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ طَلْعَةِ

الله عليه وسلم يا الهي! بحرمت طلعت

مُحَمَّدٍ وَطَهَارَةِ مُحَمَّدٍ وَطَهْرِ مُحَمَّدٍ وَطَرِيقِ

محمد اور طهارة محمد اور طهر محمد اور طريق

مُحَمَّدٍ وَطَوَافِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد اور طواف محمد صلى الله عليه وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ ظَاهِرِ مُحَمَّدٍ وَظَهْرِ مُحَمَّدٍ وَ

يا الهي! بحرمت ظاهر محمد اور ظهر محمد اور

ظِلِّ مُحَمَّدٍ وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ وَظَفْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

ظل محمد اور ظهور محمد اور ظفر محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ عَشْقِ

الله عليه وسلم يا الهي! بحرمت عشق

مُحَمَّدٍ وَعَرَافَاتِ مُحَمَّدٍ وَعِلْمِ مُحَمَّدٍ وَعُلُوِّ

محمد اور عرفات محمد اور علم محمد اور علو

مُحَمَّدٍ وَعَلِيمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد اور علم محمد صلى الله عليه وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ غُرْبَتِ مُحَمَّدٍ وَغَارِ مُحَمَّدٍ

يا الهي! بحرمت غربت محمد اور غار محمد

وَعَرْتِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرَتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور عرت محمد اور غيرت محمد صلى الله عليه

وَسَلَامٍ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ قَلْبِ مُحَمَّدٍ وَقَدْرِ

وسلم يا الهي! بحرمت قلب محمد اور قدر

مُحَمَّدٍ وَقِنَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَقُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور قناع محمد اور قوت محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ فِخْرٍ

اللہ علیہ وسلم یا الہی! بجزمت فخر

مُحَمَّدٍ وَفَقْرٍ مُحَمَّدٍ وَفِرَاقٍ مُحَمَّدٍ وَفَضْلٍ

محمد اور فقر محمد اور فراق محمد اور فضل

مُحَمَّدٍ وَفَضِيلَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محمد اور فضیلت محمد صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ كَلَامِ مُحَمَّدٍ وَكَشْفِ

وسلم یا الہی! بجزمت کلام محمد اور کشف

مُحَمَّدٍ وَكُوشِشِ مُحَمَّدٍ وَكِتَابَتِ مُحَمَّدٍ

محمد اور کوشش محمد اور کتابت محمد

وَكَيْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور کینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ لَيْلِ مُحَمَّدٍ وَلِقَاءِ مُحَمَّدٍ

یا الہی! بجزمت لیل محمد اور لقاء محمد

وَلِيَاقَةِ مُحَمَّدٍ وَمُجَاهِدَاتِهِ مُحَمَّدٍ وَسَاهِدَاتِهِ

اور لیاقت محمد اور مجاہدات محمد اور مشاہدات

مُحَمَّدٍ وَمُلَاحِظَةِ مُحَمَّدٍ وَمَسَاحَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور ملاحظہ محمد اور مساحت محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ نَارِ مُحَمَّدٍ

اللہ علیہ وسلم یا الہی! بجزمت ناز محمد

وَنَارِ مُحَمَّدٍ وَنَصِيرِ مُحَمَّدٍ وَتَقْيِيرِ مُحَمَّدٍ

اور ناز محمد اور نصیر محمد اور تقیر محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بجزمت

وَرُودِ مُحَمَّدٍ وَوَقَائِ مُحَمَّدٍ وَوُجُودِ مُحَمَّدٍ

ورد محمد اور وقایہ محمد اور وجود محمد

وَوَدِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ودیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ هَمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهَدَايَةِ مُحَمَّدٍ

یا الہی! بجزمت ہمت محمد اور ہدایت محمد

وَهَدْيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ہدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

من حاجی عجب خان نقشبندی سیفی حنفی قوم احمدزی در جرایم سنگین مقابل جهنمیان عارض هستم که در هوتل اورانوس بالای حلقه ذاکرین ولی اله جرم انتحار را انجام داده اند.

در مقابل این خوارج و داعشیان به تعداد 9 کتاب وجود دارد هر کسیکه قدرت و توان چاپ اش را داشته باشد باید به هر زبان ترجمه نماید و خدمت به اسلام نماید. سردار قوم خدمتگار قوم است باید از خارجی ها یاد بگیریم بخاطریکه هر کتاب را که پیدا میکنند به زبان خود ترجمه نمایند. منکرین حق همراه اقرار از مسائل حق انکار میکند و آن اشخاص الکاذبو لا امتی است.

تجمع گروه ضد اسلامی به نام (سیان) در شهر (کریستیناسند) برگزار و به سوزاندن یک جلد قرآن مجید پرداختند. لارس تورسن سرکرده این گروه در این تجمع برخی از صفحات قرآن کریم را داخل سطل زباله انداخت و به دنبال این اقدام یکی از افراد شاهد این اهانت با شخص درگیر شد و مانع وی شد.

پولیس در حال سرکرده این گروه ضد اسلامی و افراد مهاجم را بازداشت کرد که این شخص پیشتر نیز به جامعه مسلمانان ناروی در اسلو اهانت کرده بود.

دشمنی خود با مسلمانان را به تمام جهان علنی نشان دادند و نام نهاد گستاخان خوارج و روافض به ذریعه ترجمه قرآن و پیروان شان امت محمد مصطفی (ص) را میخواهد به آتش جهنم بیاندازد و آن علایم دشمنی به مسلمانها مثل آفتاب روشن است.

و آن شخص منافقین آخر زمان که در کشور انجام دادند ظالمان به دهن شیرین و قلب تلخ میباشد و به زبان دعوی اسلام دارند اما در قلب از آنکار میکنند و حادثه فوق الذکر را گمراهان ، ملحدین ، زندیقین و مرتد دین انجام داده و باید به مناظره علنی مشایخ احناف حاضر شوند.

نمایندگان خوفیه و گستاخان خوفیه که این کار را انجام داده کفر خویش را بر ملا کنند.

نام نهاد مسلمانها کاذبان است الکاذب لا امتی

من حاجي عجب خان نقشبندي سيفي حنفي قوم احمدزي در جرايم سنگين در مقابل همان جهنميان عارض هستم كه در هوتل اورانوس بالاي حلقه ذاكرين ولي الله جرم انتحار را انجام داده اند.

در مقابل اين خوارج و داعشيان به تعداد نه كتاب وجود دارد هر كسيكه قدرت و توان چاپ اش را داشته باشد بايد به هر زبان ترجمه نمايد و خدمت به اسلام نمايد.

سردار قوم خدمتكار قوم است

بايد از خارجي ها ياد بگيريم بخاطريكه هر كتاب را كه پيدا ميكنند به زبان خود ترجمه مينمايند.

منكرين حق همراه اقرار از مسائل حق انكار ميكنند و آن اشخاص الكاذبو لا امتي است.

قرآن شريف را علني به آتش كشيدند دشمني علني به مسلمانها به چشم سر در فيسبوك ديده شد و دشمني خود با مسلمان را به تمام جهان علني نشان دادند و نام نهاد گستاخان خوارج و روفض به ذريعه ترجمه قرآن و پيروان شان امت محمد مصطفي (ص) را ميخواهد كه به آتش جهنم بي اندازند و آن علايم دشمني به مسلمانها به مثل آفتاب و مهتاب روشن است.

و آن اشخاص منافقين آخر زمان كه در كشور انجام دادند ظالمان به دهن شيرين و قلب تلخ ميباشد و به زبان دعوي اسلام دارند اما در قلب از آن انكار ميكنند و حادثه فوق الذكر را گمراهان ، ملحدين ، زنديقين و مرتد دين انجام داده و بايد به مناظره علني مشايخ احناف حاضر شوند.

نمايندگان خوفييه و گستاخان خوفييه كه اين كار را انجام داده كفر خويش را بر ملا كنند.

نام نهاد مسلمانها كاذبان است الكاذب لا امتي

يَا اَللّٰهُمَّ يَا رُبِّي مُحَمَّدٌ وَيَكُنِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى

يا الهي! ياري محمد اور يگانگي محمد صلوات

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ

الله عليه وسلم نهيں سے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے

رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ

سوا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و

اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ دَمًا هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي

اصحابہ وسلم بعد اس تعداد کے مطابق جو

لَوْحٍ وَالْقَلَمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ وَ

لوح و قلم میں لکھی ہوئی ہے ہر دن اور رات میں، ہر ساعت میں

نَقْسٍ وَ الْمَحِيَّةِ اَلْفِ مِائَةِ اَلْفِ مَرَّةٍ اِلَى يَوْمِ

اور سانس میں دس کروڑ مرتبہ یوم علم یعنی قیامت

الْعِلْمِ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

سہم آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو خوف طاری ہوگا اور نہ ہی

هَمٌّ يَجْزُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وہ غم زدہ ہوں گے تیری رحمت کیساتھ لے سب زیادہ رحم کرنے والے



### صفاتِ ایمان و نماز پنجگانه

صفاتِ ایمان اور نماز پنج گانہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِیْمَانٌ مُّفْصَلٌ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان مہربان والا ہے

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَاليَوْمِ

میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اسکے پیغمبروں پر اور آخرت

الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرَّكَهٗ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ

کے دن پر اور تقدیر پر کہ اچھی اور بُری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور قیامت کو

بَعْدَ الْمَوْتِ ۝ اِیْمَانٌ مُّجْمَلٌ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ

زندہ ہونے پر مرنے کے بعد میں یقین کرتا ہوں اللہ کے وجود پر جیسا کہ

بِاسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبْلَتْ جَمِیْعٍ اَحْكَامِهٖ اِقْرَارٌ

وہ ہے اس کے ناموں پر اور جملہ صفات پر اور اسکے جملہ احکام کو قبول کرتا ہوں جن کا اپنی

بِاللِّسَانِ وَتَصْدِیْقٌ بِالْقَلْبِ ۝ اِذَانُ اللّٰهِ الْكَبْرِ

زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے یقین کرتا ہوں اللہ بہت بڑا ہے

اللّٰهُ الْكَبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكَبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكَبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكَبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكَبْرُ ۝

اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

اللّٰهُمَّ رَبِّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ

اے الہی تو پروردگار ہے اس کا بل او سے کا اور اس نماز کا

اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ

سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں

مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ

کہ بیشک محمد اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد اللہ کے

اللّٰهِ مِنْهُ كَرِهْتُ حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوةِ حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوةِ

رسول ہیں نماز کے لئے آؤ نماز کے لئے آؤ

اللّٰهِ مِنْهُ كَرِهْتُ حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوةِ حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوةِ

باہیں طرف منہ کرے منہ کرے منہ کرے

اَلصَّلٰوةِ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةِ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

نماز اچھی ہے سونے سے نماز اچھی ہے سونے سے

اَقَامَتْ مِّنْ قَدِّ قَامَتِ الصَّلٰوةِ قَدِّ قَامَتِ الصَّلٰوةِ

قیامت میں زیادہ کرے تحقیق نماز کھڑی ہو گئی تحقیق نماز کھڑی ہو گئی

اَللّٰهُ الْكَبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكَبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكَبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكَبْرُ ۝

اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ

اے الہی تو پروردگار ہے اس کا بل او سے کا اور اس نماز کا



الْقَائِمَةِ اَي مُحَمَّدٍ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاللَّجَّةَ  
 جو قائم ہونیوالی ہے محمد کو وسیلہ دے اور بزرگی اور درجہ  
 الرَّفِيْعَةَ وَاَبْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ  
 بلند اور یعنی ان کو مقام محمود میں پہنچا دو جس کا تو نے ان سے وعدہ  
 وَاَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ  
 کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب کر بیشک تیرا وعدہ  
 السَّبْعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط مَسَارِ  
 خلاف نہیں ہوتا اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے  
 سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ  
 اے خدا میرا دل تیری پاکی اور تعریف بیان کرتا ہے اور مبارک ہے تیرا نام اور  
 تَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ  
 بلند سے تیری شان اور بجز تیرے کوئی معبود نہیں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی  
 مِنْ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ  
 شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم  
 الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ  
 والا مہربان ہے تعریف اور کمال کی کل بائیں اللہ کیلئے خاص ہیں جو جہاں کا پالنے والا ہے

الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ط اِيَّاكَ نَعْبُدُ  
 نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے مالک ہے قیامت کے دن کا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اللہ  
 اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ط اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ  
 تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو راہ راست کی ہدایت فرما یعنی  
 صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ  
 ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے احسان کیا ہے اور نہ تباہی ان لوگوں  
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ط اٰمِيْنَ ط قُلْ هُوَ اللّٰهُ  
 کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور ان کی راہ جو گمراہ ہوئے ہماری یہ دعا قبول کر کہ سے اے خدایا  
 اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْهُ لَمْ يُوْلَدْ وَ  
 اللہ ایک ہے اللہ لے نیاز سے نہیں جتا اس نے اور نہ جنا گیا ہے اور  
 لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ط يَا اُوْرُكُوْنِيْ ط اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ كَرُوْبِعِ  
 نہیں ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا اللہ بہت بڑا ہے  
 اُوْرْتِيْنِ نَفْعٌ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ط پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا  
 پاک ہے میرا رب عظمت والا اللہ بہت بڑا ہے  
 اُوْرْطَرُ سَمِعَ اللّٰهُ لِسْنَ حَمْدِكَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ  
 جو کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے اے پروردگار تعریف تیرے لیے ہے



پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدوں میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ پھر  
اللہ اکبر کہہ کر سجدوں سے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ بھی اس طرح  
اللہ اکبر سرائے پھر اللہ اکبر ادا کرے اور اسی طرح دوسری رکعت  
اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے  
تَشْتَدُّ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ  
سب عبادتیں جو زبان اور بدن سے اور ہر عمدہ کام جو ادا ہو سکیں اللہ ہی کیلئے  
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ  
پس سلام ہو اور آپ کے اسے نبی اور رحمت اللہ کی  
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ  
اور برکتیں اس کی سلامتی ہو اور ہمارے اور اللہ کے نیک  
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ  
بِسُؤْلِ بَرِ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی محبوب بجز اللہ کے اور گواہی  
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ شَرِيفٌ پڑھ کر نماز پوری کرے  
دیتا ہوں کہ محمد بیشک خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ  
اگر نمازیں یا چار رکعت کی ہو تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر  
کہہ کر کھڑا ہو جائے اور باقی نماز پوری کرے  
اللہ ہی تو رحمت کر محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ  
اور محمد کی اولاد پر جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور  
عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ  
ابراہیم کی آل پر بیشک تو تعریف والا بزرگ سے الہی  
بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ  
تو برکت بھیج محمد پر اور محمد کی اولاد پر جس طرح تو نے  
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ  
برکت نازل کی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر بیشک تو تعریف والا  
مَّجِيدٌ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ  
سے بزرگی والا ہے لے میرے پروردگار کرے مجھے نماز درست رکھنے والا اور میری  
ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي  
اولاد کو بھی اے رب ہمارے میری دعا قبول فرما اے رب ہمارے بخش دے  
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ  
مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو جس دن حساب قائم ہو  
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں نیکیاں اور آخرت میں نیکیاں



وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط دونوں طرف منہ السلام علیکم  
اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے سلامتی ہو تم پر

وَرَحْمَةُ اللَّهِ ط السلام علیکم وَرَحْمَةُ اللَّهِ ط  
اور رحمت ہو اللہ کی سلامتی ہو تم پر اور رحمت ہو اللہ کی

دُعَا اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْيَكِ  
الہی تو سلامتی والا ہے اور جو سلامتی ہے تجھ ہی سے ہے اور تیری

يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيْثُ بَرَّابْنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا  
طرف سلامتی رجوع ہوتی ہے اسے خدا ہم کو سلامتی اور امن کے ساتھ زندہ رکھو اور داخل کر

دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ سَاءْنَا وَتَعَالَيْتَ يَا  
کو سنت میں برکت والا ہے تو اسے رب ہمارے اور تیرا مرتبہ بلند ہے اسے

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ دُعَا قَوْتِ اللَّهُمَّ إِنَّا  
جلال و بزرگی والے الہی ہم مدد

نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ  
چاہتے ہیں تجھ سے اور معافی مانگتے ہیں تجھ سے اور ایمان لاتے ہیں تجھ پر اور تھوڑا سا

عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُشْكِرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ  
رکھتے ہیں تجھ پر اور تعریف کرتے ہیں تیری اچھی اور شکر کرتے ہیں تم پر اور ناشکری نہیں کرتے

وَنَخْلَعُ وَنَتْرِكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ  
ہم تیری اور ہم ان سے الگ اور علیحدہ رہتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں تیری الہی تیرے ہی لئے

تَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَالْيَكِ تَسْعَى  
عبادت ہے اور تیرے ہی لئے ہماری نماز اور سجدہ ہے اور تیری ہی طرف ہماری دُوبے

وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ  
اور ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور ڈرتے ہیں تیرے عذاب

إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ط  
بیشک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے

دُعَا سَجْدَةَ تِلَاوَتِ سَجْدَةٍ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ  
سجدہ تلاوت میں یہ دو معاین بار پڑھے میرے چہرے نے سجدہ کیا اس جہتی کیلئے جس نے اسے پیدا

وَصُورَةَ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَ  
کیا اور اس کی صورت بنائی اور کھولے اس کے کان اور آنکھیں اپنی خاص حفاظت اور

قُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ○  
امداد کے ساتھ برکت والا ہے اللہ بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے

قرآن کمپنی لمیٹڈ ط ناشرین  
اردو بازار لاہور پاکستان ۳۸-۵۳۸۳۹ فون



## دُرُودِ كِبْرِيَّتِ أَحْمَرَ

دُرُودِ كِبْرِيَّتِ أَحْمَرَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم کرنے والے ہیں

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدًا وَاَنْحٰی

اے اللہ نازل کیجئے اپنی رحمتوں میں سے بہترین رحمت باعتبار شمار کے اور

بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَاَزْكِ تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّمَدَدًا

اپنی سب سے زیادہ تریختوں کو باعتبار دوام کے اور اپنے مسلمانوں میں پاکیزہ تر کو باعتبار فضل

عَلٰی اَشْرَفِ الْحَقَائِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَمَعْدِنِ

اور معدن کے اوپر بزرگ ترین حقیقتوں انسانیت کے اور کان ایمان

الدَّقَائِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْاِنْسَانِيَّةِ

والی باریکیوں کے اور اوپر طور (نام پہاڑ کا) احسانی تجلیات کے

وَمَهْبَطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمٰنِيَّةِ وَاوَسْطَةِ عَقْدِ

اور جائے نزول خداوندی بھیدوں کے اور پیوند دہیے والے گرہ

التَّبْيِيْنِ وَمَقْدَمَةِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ

پیغمبروں کے اور ہراول لشکر پیغمبروں کے اور

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَزْوَاجِهِ

ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل، آپ کے اصحاب و زوجات

وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ

مطہرات، اولاد اور اہل بیت پر اور تیرے تمام اطاعت شعاروں

اجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ

پر جو آسمانوں اور زمینوں پر رہتے ہیں اسے جمع کرنے

بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ ط وَيَا كَرَمَ

والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور لے کر کرنے والوں

الْاَكْرَمِيْنَ ط وَصَلٰى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا

میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے اپنی رحمت سے (میری یہ التجا قبول فرما) حق تعالیٰ ہمارے

مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اجْمَعِيْنَ وَسَلٰمٌ

آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ

تَسْلِيْمًا دَائِمًا اَبَدًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ط

رحمت و سلامتی نازل فرمائے بہت زیادہ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اور ہر قسم کی حمد و ثنا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے

أَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ لُؤَاءِ  
اور بہترین جملہ مخلوقات اٹھانے والے جھنڈے بزرگی  
الْعِزِّ الْأَعْلَى وَمَلِكِ أَرْزَمَةِ الشَّرَفِ الْأَسْنَى  
بڑی کے اور مالک مہاروں بزرگی روشن تر کے  
شَاهِدِ أَسْرَارِ الْأَزَلِ وَمُشَاهِدِ الْأَنْوَارِ  
واقف بھیدوں ازل کے اور دیکھنے والے انوار کے جو  
السَّابِقِ الْأَوَّلِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقَدَمِ  
سابق اور پہلے ہیں اور بیان کرنے والے زبان ہمیشگی کے اور  
مَنْبِجِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَمَظْهَرِ سِرِّ  
چشمہ علم اور بردباری اور حکمتوں کے اور جائے ظہور بھید  
الْجُودِ الْجَزْنِيِّ وَالْحُلِيِّ وَالنَّسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ  
بخشش جزئی اور کلی کے اور پہلی آنکھ ہستی علوی  
الْعُلُوبِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكُونِيِّ  
اور سفلی کے اور جان جسم دونوں جہان کے اور  
عَيْنِ حَيَاتِ الدَّاسِيَيْنِ الْمُنْتَخَلِقِ بِأَعْلَى  
اصل زندگی دنیا اور آخرت کے توگیر ساتھ برترین

رُتْبَةِ الْعُبُودِيَّةِ الْمَتْحَقِّقِ بِأَسْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ  
رتبہ بندگی کے ثابت آراستہ ساتھ بھیدوں ربوبیت کے  
صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ الْأَصْطِفَائِيَّةِ وَالذِّكْرَامَاتِ  
صاحب مقامات برکزدگی کے اور کرامات  
الْإِرْتِنَابِيَّةِ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ الْأَوْصَافِ  
پسندیدگی کے سردار بزرگوں کے مجمع اوصاف حمیہ کے  
الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ الْمَخْصُوصِ  
جو صاحب عظمت دوست ہیں اور محبوب ہیں کرم خاص کئے گئے  
بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْمُؤَيَّدِ بِأَوْصَافِ  
ساتھ بلند مرتبوں کے اور مقاموں کے اور مدد کئے گئے ساتھ روشن  
الْبَرَاهِينِ وَالذِّلَالَاتِ الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ  
تیز دلیلوں اور رہنمائیوں کے مدد کئے گئے ساتھ رعب کے اور  
الْمُعْجَزَاتِ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْأَيْدِيِّ وَالنُّورِ  
معجزات کے اور جوہر بزرگ دائمی اور نور قدیم  
الْقَدِيمِ الْحَمْدِيِّ السَّرْمَدِيِّ سَيِّدِنَا  
محمّدی سرمدی کے سردار ہمارے

مُحَمَّدٌ الْمَحْمُودُ فِي الْإِبْجَادِ وَالْوَجُودِ الْقَائِمُ

محمد کے پسندیدہ بیخ پیدائش کے اور ہستی کے ابتدا کرنے والے

لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَةِ الشَّاهِدِ

واسطے ہر ایک دیکھنے والے اور دیکھے گئے کے اور درگاہ مکاؤں روشنی

وَالشَّهَادَةِ نَوْرٍ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاهُ وَسِرِّ كُلِّ

اور ظاہر ہونے کے نور ہر چیز کے اور راہنما اس کے اور بھید ہر

سِرٍّ وَسَنَاءِ الَّذِي شَقِقَتْ مِنْهُ الْأَسْرَارُ

بھید کے اور روشنی اس کے وہ ذات کہ کھولے گئے اس سے بھید

وَأَنْفَلَقَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ السِّرَّ الْبَاطِنِ وَالنُّورِ

اور روشن ہوئے اس سے انوار باطن کے بھید کے اور نور

الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْقَائِمِ الْخَاتِمِ الْأَوَّلِ

ظاہر کے سردار کامل ابتداء کرنے والے تمام کرنے والے اول

الْآخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ الْخَاتِمِ النَّاهِي

آخر پرستیدہ ظاہر پیچھے آنے والے اٹھانے والے منع کرنے والے

الْأَمْرِ النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ الشَّاكِرِ الْقَائِمِ

سلم کرنے والے نصیحت کرنے والے مدد دینے والے صبر کرنے والے شکر کرنے والے دُعا مانگنے والے

الدَّاكِرِ الْمَاجِي الْمَاجِدِ الْعَزِيزِ الْحَامِدِ

ذکر کرنے والے مٹانے والے بزرگ غالب حمد کرنے والے

الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ الْمُتَوَكِّلِ الرَّاهِدِ الْقَائِمِ

یقین کرنے والے عبادت کرنے والے توکل کرنے والے زہر کرنے والے کھڑے ہونے والے

الْقَاعِدِ الرَّائِعِ السَّاجِدِ التَّائِبِ الشَّهِيدِ الْوَلِيِّ

نمازیں بیٹھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے تائب گواہ دوست خدا

الْحَمِيدِ الْبُرْهَانَ الْحُجَّةِ الْبَطَّاءِ الْمَخْتَارِ

ستودہ دلیل حجت اطاعت کئے گئے برگزیدہ

الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبِرِّ الْمُسْتَنْصِرِ الْحَقِّ الْبَيِّنِ

عجز کرنے والے فروتنی کرنے والے نیک مدد کرنے والے راست و روشن

ظُهُ يُسِّ الْمَزْمَلِ الْمَدْرَسِيِّ الْمُرْسَلِ

ظہر یس کیل پوش چادر پینے والے سردار پیغمبروں کے

وَأَمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَحَبِيبِ

اور پیشوا پرہیزگاروں کے اور آخر تمام نبیوں کے اور دوست

رَبِّ الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ

پروردگار تمام جہانوں کے پیغمبر اور رسول

المجتبى والحكم العدل اللطيف الخبير

مقبول اور منصف عادل پاکیزہ خیردار

الحكيم العليم العزيز الرؤوف الرحيم الغفور

دانا جاننے والے غالب محبت والے مہربان بخشنے والے

الشكور العلي الكريم نورك القديم و

شکر کرنے والے برتر بزرگ آپ کے نور قدیم اور

صراطك المستقيم محمد عبدك و

راہ آپ کی جو سیدھی ہے محمد بندے تیرے اور

رسولك وصفيك وخليك وحيبك و

رسول تیرے اور برگزیدہ تیرے اور دوست تیرے اور حبیب تیرے اور

وليك ونيبك وامينك ودليلك ونجيك و

ولی تیرے اور نبی تیرے اور امانت دار تیرے اور تیرا دستہ دکھانے والا اور ہمارا تیرے

ونخبك وذخيرتك وخيرتك وامام

اور برگزیدہ تیرے اور ذخیرہ تیرے اور خزانہ تیرے اور پیشوا

الخير وقايد الخير ورسول الرحمة النبي

خیر کے اور کھینچنے والے نیکی کے اور بھیجے ہوئے واسطے رحمت کے پیغمبر

الارحمي العربي القرشي الهاشمي الابطحي

انہی عرب کے رہنے والے قبیلہ قریش سے اولاد سے ہاشم کے بطحا والے

المكي المدني التهامي الشاهد المشهود

مکہ والے مدینہ والے تھامہ والے گواہ گواہی دینے والے

الولي المقرب العبد المسعود الحبيب الشفيق

دوست مقرب بندے نیک محبوب سفارش کرنے والے

الحبيب الرفيع البليح البديع الواعظ

صاحب حسب بلند مرتبہ ملاحظت والے نادر نصیحت کرنے والے

البنير التذير العطوف الحليم الجواد الكريم

بشارت دینے والے ڈرانے والے بہت مہربان تحمل والے سخی بخشش کرنے والے

الطيب المبارك المكين الصادق المصدق

پاک صاحب برکت صاحب مرتبہ سچے سچا کئے گئے

الامين الداعي اليك يا ذنك السراج المنير

امانت دار بلانے والے غلق کے طرف تیرے علم تیرے سے چراغ روشن

الذي ادرك الحقائق بجنتها وفاق


ایسے کہ جس نے جانا اصل چیزوں کو تمام کمال اور کامیاب ہوئے اور بالا



الْخَلَائِقِ بِرِقَبَتِهَا وَجَعَلْتَهُ حَبِيبًا وَنَاجِيَتَهُ  
ہونے مخلوقات پر ساری اور بنایا تو نے ان کو دوست اور ہوا کیا تو نے ان کو  
قَرِيْبًا وَأَدْنَيْتَهُ رَقِيْبًا وَخَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ  
قرب ہے اور نزدیکی دی تو نے ان کو نگہبان ہو کر اور ختم کیا تو نے ان پر رسالت  
وَالدَّلَالَةَ وَالْبَشَارَةَ وَالنَّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ  
اور راہنمائی اور خوش خبری اور ڈرانے اور پیغمبری کو اور  
نَصْرَتَهُ بِالرُّعْبِ وَظَلَمْتَهُ بِالسَّعْبِ وَرَدَدْتِ  
مدد کی تو نے ان کی ساتھ دہشت کے اور سایہ دیا تو نے ان کو ایسا اور پھیرا تو نے  
لَهُ الشَّمْسَ وَشَقَقْتَ لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَقْتَ لَهُ  
واسطے ان کے آفتاب کو اور چھایا تو نے واسطے ان کے چاند کو اور گویا تو نے واسطے  
الصَّبَّ وَالطَّبِيَّ وَالذِّئْبَ وَالْجَذْعَ وَالذَّرَاعَ  
ان کے سوسمار اور ہرن اور بھیرے کو اور تنہ درخت اور بازو  
وَالجَمَلَ وَالْجَبَلَ وَالْمَدْرَ وَالشَّجْرَ وَالْحَجْرَ  
اور اونٹ اور پہاڑ اور ڈھیلا اور درخت اور پتھر کو  
وَأَتْبَعَتْ مِنْ أَصَابِعِهِ الْمَاءَ الزَّلَالَ وَ  
اور لگا تو نے ان کی انگلیوں سے پانی مینچا اور


أَنْزَلْتَ مِنَ الْمَزْنِ بَدْعَوْتَهُ فِي عَامِ الْحَلِّ  
نازل کی تو نے ابرسفید سے ان کی دُعا سے بیچ سال تحوط  
وَالْجَدْبَ وَأَيْلَ الْغَيْثِ وَالْمَطْرَ فَأَعْشَوْشِبَ  
اور خشکی کے زوردار بارش اور مینھ پھر سری ہوئی  
مِنْهُ الْفَقْرُ وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ وَالرَّمْلُ  
اس سے سوکھی اور پتھری اور سخت زمین اور نرم زمین اور ریگستان  
وَالْحَجْرَ وَالْمَدْرَ وَأَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسِيدِ  
اور پتھر اور ڈھیلا اور لے گیا تو ان کو ایک رات مسجد  
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا إِلَى السَّمَوَاتِ  
کعبہ سے مسجد اقصی تک پھر بلند آسمانوں تک  
الْعُلَى إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ  
پھر سردرة المنتہی تک پھر اس مقام تک کہ فرق دو گوشہ کمان کا  
أَوَادِنِي وَأَرَيْتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى وَأَتْلَتَهُ الْغَايَةَ  
یا اس سے کم تھا اور دکھائی تو نے لگو نشانی بڑی اور پہنچایا تو نے ان کو نہایت  
الْقَصْوَى وَالْكَرْمَةَ بِالْمُخَاطَبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ  
مرتبہ اعلیٰ کو اور بزرگی دی تو نے ان کو ساتھ باتیں کرنے کے اور نگہبانی کے





وَالشَّافِهَةَ وَالشَّاهِدَةَ وَالْمُعَايِنَةَ بِالْبَصَرِ  
اور رُو ہوئے کے اور حضور میں جانے کے اور دیکھنے کے بینائی سے  
وَحَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَى وَالشَّفَاعَةَ  
اور خاص کیا تو نے اُن کو ساتھ دسینہ بزرگ کے اور سفارش  
الْكَبْرَى يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ وَ  
بڑی کے دن خوف بڑے کے محشر میں اور  
جَمَعَتْ لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ الْحِكْمِ وَ  
جمع کیا تو نے واسطے اُن کے معنی خیز کلمات اور جواہر حکمتوں کے اور  
جَعَلَتْ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ وَغَفَرَتْ لَهُ مَا  
کیا تو نے اُن کی امت کو سب امتوں سے بہتر اور بخشتا تو نے اُن کی برائش  
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي بَلَغَ  
کو جو اُن سے ہو چکی ہو (کسی خاص زمانہ میں) اور جو اس کے بعد ہوئی ہو وہ کہ پہنچایا  
الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَشَفَّ  
انہوں نے احکام پیغمبری کو اور ادا کی امانت اور خیر خواہی کی امت کی اور دُور کیا  
الْغُمَّةَ وَجَلَّى الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
غم کو . اور روشن کیا تاریکی کو اور کوشش کی اللہ کے راستہ میں

وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّى آتَاهُ الْيَقِينَ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ  
اور عبادت کی اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اسے اللہ بھیج اُن کو  
مَقَامًا مَحْمُودًا يُعْبَطُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ  
مقام محمود میں کہ رشک کریں آپ پر اس میں پہلے اور پچھلے  
اللَّهُمَّ عَظِّمَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَعْلَى ذِكْرِهِ وَ  
اسے اللہ بڑھائی دے اُن کو دنیا میں ساتھ بلند کرنے ذکر اُن کے کے اور  
أَظْهَرِ دِينَهُ وَرِثَتَهُ شَرِيعَتَهُ وَفِي الْآخِرَةِ  
ظاہر کرنے دین اُن کے کے اور باقی رکھنے شریعت اُن کی کے اور آخرت میں  
بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَأَجْرُ أَجْرِهِ وَمَثْوِيَّتِهِ  
ساتھ شفاعت اُن کی کے آپ کی امت میں اور عطا فرما اجر اور ثواب آپ کا  
وَأَبْدِ فَضْلَهُ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِالْمَقَامِ  
اور ظاہر کر فضیلت آپ کی سب پہلوں اور پہچانوں کے لئے مقام  
الْمَحْمُودِ وَتَقَدِّمِهِ عَلَى كَأَفَى الْمُتَقَدِّمِينَ  
محمود میں اور ساتھ مقدم کرنے اُن کے کے اور تمام مقبول حاضر  
بِالشُّهُودِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكَبْرَى  
بارگاہ کے اسے اللہ قبول کر اُن کی بڑی شفاعت کو



وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ  
اور اونچا کران کے بلند درجہ کو اور عطا کران کو ان کے مطالب دنیا اور  
وَالْأُولَىٰ كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهُمَّ  
آخرت میں جیسا کہ دیا تو نے ابراہیم اور موسیٰ کو اسے اللہ  
اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً  
کر تو ان کو اپنے تمام بندوں میں سب سے بزرگ باعتبار بڑائی کے اور کرامت  
وَمِنْ أَسْرَفِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَأَعْظَمِهِمْ  
کے اور سب سے بلند اپنے نزدیک باعتبار درجہ کے اور سب سے بڑا باعتبار  
خَطْرًا وَأَمَكْنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً اللَّهُمَّ عَظْمُ  
قدر کے اور سب سے توانا نزدیک اپنے باعتبار شفاعت کے لے اللہ با عظمت  
بِرْهَانَهُ وَأَقْلِبْ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغْهُ مَأْمُولَهُ فِي  
کر ان کی دلیل کو اور ظاہر کر ان کی دلیل نبوت کو اور پہنچا ان کو ان کی آرزو تک  
أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ  
ان کے اہل بیت اور ان کی اولاد میں اسے اللہ پیچھے پہنچا تو ان کی اولاد سے  
وَأُمَّتِهِ مَا تَقَرَّبَ بِهِ عَيْنُهُ وَأَجْزَهُ عَنَّا خَيْرُ  
اور امت ان کی سے وہ نعمت کہ روشن ہو اس سے آنکھ ان کی اور بدلہ دے انکو

مَا جَزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَأَجْرَ الْأَنْبِيَاءِ  
ہم سے بہت اچھا اس سے کہ دیا تو نے کسی نبی کو ان کی امت سے اور بدلہ دے تو سب  
كُلِّهِمْ خَيْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
نبیوں کو اچھا اے اللہ درود و سلام بھیج اور سردار ہمارے  
مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَاهَدَتْهُ الْأَبْصَارُ وَسَمِعَتْهُ  
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بشمار اس کے کہ دیکھیں اس کو بینائیاں اور سنیں اس کو کان  
الْأَذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى  
اور درود اور سلام بھیج اوپر ان کے بشمار ان کے کہ درود  
عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ  
بھیجیں ان پر اور درود و سلام بھیج اوپر ان کے بشمار ان کے کہ درود نہ  
يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ  
بھیجیں ان پر اور درود اور سلام بھیج اوپر ان کے جیسا کہ چاہے تو  
وَتَرْضَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ  
اور رضا ہو تیری اس میں کہ درود بھیجا جاوے ان پر اور درود اور سلام بھیج اوپر  
كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ  
ان کے جیسا کہ حکم کیا تو نے کہ درود بھیجیں ہم اوپر ان کے اور درود و سلام بھیج



عَلَيْهِ كَمَا يَتَّبِعِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ  
ان پر جیسا کہ سزاوار ہے یہ کہ درود بھیجا جاوے اُن پر اے اللہ  
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نَعْمَاءِ  
درود اور سلام بھیج ان پر اور ان کی اولاد پر بشمار نعمتوں اللہ  
اللَّهُ تَعَالَىٰ وَأَفْضَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ  
تعالیٰ کے اور افزائشوں اس کی کے اے اللہ درود اور سلام بھیج ان پر  
وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ  
اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر اور ان کی اولاد پر اور ان کی بیویوں  
وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِثْرَتِهِ وَعَشِيرَتِهِ  
پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے گھر کے لوگوں اور ان کے رشتہ دار اور قبیلہ والوں  
وَأَصْهَارِهِ وَأَخْتَانِهِ وَأَحْبَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ وَ  
پر اور آپ کے خسران پر اور دامادوں پر اور ان کے دوستوں پر اور ان کے  
أَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ خَزَنَةَ أَسْرَارِهِ وَمَعَادِنَ  
پیروؤں پر اور ان کے گروہ اور ان کے دوکانوں پر جو نگہبان ہے اُن کے بھیدوں کے  
أَنْوَارِهِ كُنُوزِ الْحَقَائِقِ وَهُدَاةَ الْخَلَائِقِ وَمَجْمُومَ  
اور کائیں ہیں اُن کے انوار کی خزانے حقیقتوں کے اور راہنما مخلوقات کے اور ستارے

الْأَهْتِدَاءِ لِمَنْ اقْتَدَىٰ بِهِمْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا  
ہدایت کے واسطے اس کے جو اُن کی پیروی کرے اور سلام بھیج بہت بہت  
كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضَ عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ  
سلام دائمی ہمیشہ اور راضی ہو تمام صحابہ سے  
رَضَىٰ سَرْمَدًا عَدَدَ خَلْقِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ  
رضامندی دائمی بشمار خلق اپنی کے اور موافق وزن عرش اپنے  
وَرِضَانِ نَفْسِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ  
کے اور خوشی ذات اپنی کے اور موافق انداز سیاہی کلمات اپنے کے جب تک کوئی  
ذَكَرَكَ وَكُلَّمَا سَهَىٰ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ صَلَوَةٌ  
ذکر کرے جو آپ کا ذکر کرے اور جب تک کوئی غافل آپ کا ذکر نہ کرے وہ درود  
تَكُونُ لَكَ رِضَىٰ وَحَقِيقَةٌ أَدَاءٌ وَلِنَاصِلًا  
جو سبب ہو آپ کی رضامندی کا اور اُن کے حق کی ادائیگی کا اور ہمارے لیے  
وَأَتِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ  
بھلائی کا اور سے اُن کو مقام وسیلہ کا اور فضیلت کا اور مرتبہ بلند و  
الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثَهُ الْقَامَ الْمَحْمُودَ وَاللَّوَاءَ السَّعْفُودَ  
برتر اور عطا کر اُن کو مقام محمود اور نشان بستر



وَالْحَوْضِ الْمُرْوَدِ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى جَمِيعِ  
اور حوض کوثر وارد ہوگی امت اس پر اور رحمت بھیج اسے اللہ اوپر سب  
اِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ  
بھائیوں ان کے کے نبیوں اور پیغمبروں اور ولیوں  
وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَمَلَائِكَتِكَ  
اور نیکیوں اور شہیدوں اور صدیقوں اور اپنے ملائکہ  
الْبَقَرِيِّينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ أَبِي  
مقربین میں سے اور اوپر سردار ہمارے شیخ محمد الدین ابو  
مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْبَكِّيِّ الْإِمِينِ صَلَوَاتُ  
محمد عبد القادر جیلانی کے جو صاحب مرتبہ اور حامل امانت ہیں زمین  
اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
اللہ کی ان سب پر اسے اللہ درود اور سلام بھیج اوپر  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّالِفِينَ  
سردار ہمارے محمد کے اور اوپر اولاد سردار ہمارے محمد کے کہ پہلے سے  
لِلْخَلْقِ نَوْرَةَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ ظَهْرَةَ عَدَدِ  
سب خلقت سے نور ان کا رحمت ہے واسطے جہانوں کے ظہور ان کا موافق

مَا مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ  
عدد کے اس مخلوق کے جو گذر چکی اور جو باقی ہے اور جو نیک بخت ہیں  
مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةٌ تَسْتَعْرِقُ الْعَدَا  
ان میں سے اور جو بد بخت ہیں ایسی رحمت جو شمار سے باہر ہو  
وَيَحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةٌ لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ  
اور متجاوز ہو حد سے وہ رحمت کہ نہ حد ہو اس کی اور نہ نہایت  
وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ صَلَوةٌ الَّتِي  
اور نہ اغازہ اس کا اور نہ تمامی اس کی وہ درود اپنا کہ بھیجا تو نے  
صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوةٌ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ  
اور ان کے ایسا درود کہ پیش کیا گیا اور ان کے  
مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ إِلَيْهِ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ  
قبول کیا گیا نزدیک ان کے محبوب ان کو درود ہمیشہ رہنے والا  
يَدَاؤِمِكَ يَا قِيَّةٌ بِبِقَابِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ  
ساتھ ہمیشگی تیری کے اور باقی ساتھ بقا تیری کے نہ انتہا اس کی جو بجز  
عَلَيْكَ صَلَوةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى  
علم تیرے کے ایسا درود کہ خوش کرے تجھ کو اور پسند کرے تو اسکو اور خوش ہو تو

بِهَاءَنَا صَلَوَةٌ تَنَالُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ مَقَامِ سَجْدَةٍ  
بِسَبِّ اس کے ہم سے ایسا درود کہ بھر سے زمین اور آسمان کو باقی عبارت نقل نامک  
أَوَّلُ صَلَوَةٍ تَسْتَجِيبُ بِهَا دُعَائُنَا وَتُرْكِي بِهَا  
سجود میں پڑھی ایسا درود کہ قبول کرے تو بسبب اس کے دعا ہماری اور پاک کرے تو  
نَعُوسِنَا وَتُحْيِي بِهَا قُلُوبَنَا وَتَحُلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ  
بسبب اس کے ہماری جانیں اور زندہ کرے بسبب اس کے دل ہمارے اور کھولے بسبب  
تُفْرِجُ بِهَا الْكُرْبَ مَقَامِ سَجْدَةٍ دَوْمٍ وَيَجْرِي بِهَا لَطْفُكَ  
اسکے گریں اور ڈورا کرے تو اس سے سختیوں کو اور جاری ہو بسبب اس کے  
فِي أَمْرِي وَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ مَقَامِ سَجْدَةٍ سَوْمٍ وَبَارِكْ  
مہربانی تیری میرے کام میں اور کاموں میں سب مسلمانوں کے اور برکت دے  
لَنَا عَلَى الدُّوَامِ وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَأَمِدَّنَا  
تو ہمیں اوپر ہمیشگی کے اور بچا تو ہمیں اور راہ بنا ہم کو اور مدد سے ہم کو  
وَأَجْعَلْنَا أَمِينِينَ وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ  
اور کر ہم کو بے خوف اور آسان کرے ہمارے لئے ہمارے کام ساتھ کام  
لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي  
کے واسطے دلوں ہمارے کے اور بدنوں ہمارے کے اور ساتھ سلامتی اور عافیت کے

دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَأَخْرَجْنَا وَتَوَقَّنَا عَلَى الْكِتَابِ  
ہمارے دین اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت میں اور وفات دے ہم کو اور قرآن  
وَالسُّنَّةِ وَاجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ  
اور طریقہ پیغمبر کے اور ہم کو اس کے ساتھ جنت میں بغیر عذاب کے کہ درج جنت  
عَذَابٍ يَسْبِقُ بِنَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرِ  
سے پہلے ہو در آن حالیکہ تو خوش ہو ہم سے نہ  
غَضَبَانَ وَلَا تَتَكَبَّرْ بِنَا وَاخْتِمْ لَنَا مِنْكَ  
ناراض اور نہ آزمانا ہمیں اور خاتمہ کر ہمارا اپنی طرف  
بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ بِلَا مِحْنَةٍ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ  
ساتھ ہنسی اور عافیت کے بغیر محنت کے سب کا پائی سے یاد کرنا  
رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ  
ہوں پروردگار کو پروردگار بزرگی کا اس سے جو بیان کرتے ہیں مشرک اور سلامتی  
عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
اوپر پیغمبروں کے اور سب تعریف اللہ کو جو پائے والا جہانوں کے ہے  
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ  
تیری رحمت سے اسے زیادہ رحم کرے رحمت کرنے والوں سے

**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)  
Ketabton.com: The Digital Library**